



SIBI CH06

Chapter

6

آموزش

اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ

- آموزش کی نویجت کو سمجھ سکیں
- آموزش کی مختلف شکلیں یا اقسام اور ان اقسام میں مستعمل طریقہ کار کی وضاحت کر سکیں
- آموزش کے تعین کنندوں کی وضاحت کر سکیں
- آموزش کے اصولوں کے کچھ اطلاقوں سے واقف ہو سکیں

مشمولات

لفظی آموزش	تعارف
تصور کی آموزش	آموزش کی نویجت
مہارت کی آموزش	آموزش کے مثالی خاکے
انتقال آموزش	کلاسیکی الترام
آموزش کو ہل بنانے والے عوامل	کلاسیکی الترام کے تعین کنندے
سیکھنے والا: آموزش کے اسلوب	فعالی/ویسیتی الترام
آموزشی معذوری	فعالی الترام کے تعین کنندے
آموزش کے اصولوں کا اطلاق	کلاسیکی اور فعالی الترام: اختلاف (باکس 6.1)
کلیدی اصطلاحات	اہم آموزشی اعمال
خلاصہ	سیکھی ہوئی لاچارگی (باکس 6.2)
نظر ثانی کے لئے سوالات	مشابہاتی آموزش
پروجکٹ کی تجویز	وقوفی آموزش

تعارف

پیدائش کے وقت ہر انسانی بچے میں کچھ محدود جوابی عمل کرنے کی لیاقت ہوتی ہے۔ جب کبھی ماہول میں مہیجات موجود ہوتے ہیں تو یہ جوابی عمل خود بخود اضطراری طور سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا اور پختگی حاصل کرتا ہے وہ مختلف اقسام کے جوابی عمل کرنے کے لائق ہوتا جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ افراد کو ماں کی شکل میں پہچانا، کچھ کوباپ اور کچھ کو دادا کے طور پر پہچانا، کھاتے وقت بچپ کا استعمال کرنا، حروف کی شناخت کو سیکھنا، حروف کو لکھنا اور ان کو ملا کر الفاظ کی تشکیل سیکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ بچہ لوگوں کو مخصوص حالات اور ماہول میں دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور ان کی نقل کرتا ہے۔ کتاب، نارنگی، گائے، بڑی وغیرہ کے ناموں کو سیکھنا اور یاد رکھنا بچ کا دوسرا اہم کام ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ مختلف واقعات یا چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور ان کی نمایاں خصوصیات کو سیکھتا ہے۔ وہ چیزوں کو کرسی، میز، پھل، سبزی وغیرہ مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اسکوڑ یا کارچلانا، دوسروں سے موثر طریقہ سے بات چیت کرنا اور ان کے ساتھ ملنا اور بات چیت کرنا بھی وہ سیکھ جاتا ہے۔ محض آموزش کی بنابر کوئی شخص مختی یا کام چور، سماجی طور سے معروف ہرمند اور پیشہ ورانہ طور پر قابل بنتا ہے۔ آموزش اور تطابق کی صلاحیت کی وجہ سے ہر فرد اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور ہر طرح کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس باب میں آموزش کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے آموزش کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی نفسیاتی عمل کے طور پر توصیف کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کس طرح سے سیکھتا ہے۔ آموزش کے بہت سے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جو آسان سے مشکل تر آموزش کی وضاحت کرتے ہیں۔ تیسرے حصہ میں کچھ ایسے تجربی مظاہر کی وضاحت کی گئی ہے جو آموزش کے دوران وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ چوتھے حصہ میں ان مختلف عوامل کو بیان کیا گیا ہے جو آموزش کی رفتار کا تعین کرتے ہیں اور ان میں آموزش کے اسلوب اور اس کی معدود ریاں شامل ہیں۔

آموزش کی نوعیت

(Nature of Learning)

کر سکتے ہیں۔“ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کچھ تبدیلیاں نشیاط کے استعمال یا تھکان کے نتیجہ میں بھی رونما ہوتی ہیں لیکن ان تبدیلیوں کو آموزش نہیں کہا جاتا ہے۔ صرف وہ تبدیلیاں جو مشق اور تجربے کی وجہ سے آتی ہیں اور جو نسبتاً مستقل (بالکل مستقل نہیں) ہوتی ہیں وہی آموزش کی مثال پیش کرتی ہیں۔

جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے آموزش انسانی کردار کا بیحدا ہم عمل ہے۔ یہ ان تمام تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تجربات کے نتیجہ کا ماحصل ہیں۔ آموزش کی تعریف ”کردار میں کسی بھی نسبتاً مستقل تبدیلی یا تجربہ کے ذریعہ کردار میں پیدا کردہ کرداری قوت کے طور پر

آموزش کے اوصاف (Features of Learning)

بہت زیادہ شور شراب ہے اور یہ شور شرابہ دیر رات تک چلتا ہے۔ شروع شروع میں یہ شور آپ کو اس کام سے بھٹکاتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ خلل محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب شور لگاتا رہتا ہے تو آپ کچھ نئے رُخ کے اضطرار یہ بنالیتے ہیں۔ یہ اضطرار یہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں اور آخرش نہ پہچانے جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کردار میں آئی ہوئی ایک طرح کی تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی مہجوس سے مکرر رو برو ہونے کی وجہ سے آئی ہے اس لئے اسے عادت کی وجہ سے آئی ہوئی تبدیلی کہیں گے اور آموزش کے نتیجہ میں آئی ہوئی تبدیلی نہیں کہیں گے۔ آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو نسou کو سکون پہچانے والی دواوں یا منشیات یا شراب کا استعمال کرتے ہیں ان کے کردار بھی تبدیل ہوتے ہیں کیونکہ دوا یا منشیات یا شراب کے استعمال سے جسمانی فعل اور ان کے طریقے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی تبدیلیاں بہت ہی غیر مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں اور جیسے منشیات یا شراب کے اثرات مندل ہوتے ہیں ایسی تبدیلیاں غائب ہوتی جاتی ہیں۔

آموزش میں نفسیاتی واقعات کا ایک سلسلہ پہاڑ ہوتا ہے۔ آموزش کے مثلی تجربہ کے بیان میں یہ بات صاف ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ ماہرین نفسیات کی دلچسپی اگر یہ سمجھنے میں ہو کہ الفاظ کی فہرست کس طرح سے سمجھی جاتی ہے۔ تو انہیں اس سلسلے سے گذرنا ہوگا: (i) یہ جاننے کے لئے کہ آموزش سے پہلے وہ شخص کتنا جانتا ہے قبل آزمائش کرنا، (ii) یاد کرائے جانے والے الفاظ کی فہرست کو ایک معین مدد کے لئے اس شخص کے سامنے پیش کرنا، (iii) اس وقفہ کے دوران الفاظ کی فہرست کا نئی معلومات کے طور پر عمل پذیر ہونا، (iv) جب عمل کاری مکمل ہو جاتی ہے تو نئی معلومات حاصل ہو جاتی ہے، اب نئی معلومات حاصل کی جا پچکی ہے (یہی آموزش ہے)، (v) کچھ وقت گذر جانے کے بعد عمل کاری شدہ معلومات کی اس شخص سے بازیافت کرائی جاتی ہے۔ بازیافت کرنے کے وقت


آموزش کے عمل کی کچھ نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں۔ آموزش کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا تجربہ بہ پہاڑ ہوتا ہے۔ ہم کو متعدد موقع پر کسی قصہ کے ایک خاص سلسلہ میں واقعہ پذیر ہونے کا تجربہ ہے۔ اگر کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ خاص واقعہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی یہ سیکھتا ہے کہ اگر سورج کے غروب ہونے پر ایک گھنٹی بھتی ہے تبھی رات کا کھانا پروسنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ بار بار آسودگی کا تجربہ کسی کام کو ایک مخصوص طریقہ سے کرنے کے بوجب اس طرح کی عادت کی قیادت کرتا ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک تجربہ آموزش کو جنم دے دیتا ہے۔ اگر کسی بچہ کی انگلی ماچس کی ڈبی کے کنارے پر گڑنے سے جل جاتی ہے تو یہ تجربہ مستقبل میں ماچس کی ڈبی کے استعمال کے لئے بچے کو ماچس کی ڈبی کو احتیاط سے استعمال کرنا سکھا دیتا ہے۔

آموزش کی وجہ سے ہونے والی کرداری تبدیلیاں نسبتاً مستقل ہوتی ہیں۔ ایسی تبدیلیاں ان کرداری تبدیلیوں سے مختلف ہوتی ہیں جو نئے تو مستقل ہوتی ہیں اور نہ ہی سمجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلاً کردار میں آئی ہوئی وہ تبدیلیاں جو تھکان، عادت یا منشیات کے استعمال کے نتیجہ میں آتی ہیں وہ آموزش کے نتیجہ میں آئی ہوئی تبدیلیوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کچھ وقت کے لئے نفسیات کی نصابی کتاب پڑھ رہے ہیں یا موڑ کار چلانا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ تھکن محسوس کریں گے۔ کردار میں آئی ہوئی یہ تبدیلی تھکان کے نتیجہ میں آئی ہوئی تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی وقتی تبدیلی ہے۔ اس لئے اسے آموزش نہیں کہا جائے گا۔

آئیے ہم کردار میں آئی ہوئی تبدیلی کی ایک دوسری مثال لیں۔ آپ کے پڑوس میں کسی کی شادی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے

کلاسیکی التزام (Classical Conditioning)

کلاسیکی التزام کی آموزش کی تھوڑے سب سے پہلے پاؤ لاؤ (Pavlov) نے کی تھی۔ ان کی بنیادی لمحپسی ہاضمہ کے عضویات کی معلومات حاصل کرنے میں تھی۔ اپنی تحقیق کے دوران انہوں نے دیکھا کہ وہ کتنے جن کے اوپر وہ خود تجربہ کر رہے تھے جس برلن میں انہیں کھانا دیا جاتا تھا اس برلن کو دیکھا اگرچہ وہ خالی ہوتا تھا رال پکانے لگتے تھے۔ پاؤ لاؤ (Pavlov) نے اس عمل کی تفصیل جانے کے لئے ایک اختبار کا ڈیزائن تیار کیا۔ اختبار کے پہلے مرحلہ میں کتنے کو ایک کٹھرے میں رکھ کر باندھ دیا گیا۔ کچھ وقت کے لئے کتنے کو کٹھرے میں اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ کئی دنوں تک یہ عمل کئی بار دہرا یا گیا۔ اسی دوران ایک آسان سی سرجری (جرجی) کی گئی اور اس میں ایک ٹیوب کے ایک سرے کو اس کے جبڑے میں گھسیت دیا گیا اور ٹیوب کا دوسرا سر ایک گلاس میں ڈال دیا گیا جس میں لارکی مقدار کونا پا جاسکتا تھا۔ اس اختباری ترتیب کو تصویر 6.1 میں دکھایا گیا ہے۔



تصویر 6.1: پاؤ لاؤ کے کٹھرے میں التزام کے لئے ستا

اختبار کے دوسرا مرحلہ میں کتنے کو بھوکا رکھا گیا اور اس کے کٹھرے میں اس طرح رکھا گیا کہ ٹیوب کا ایک سر اس کے جبڑے

اس تعداد سے موازنہ کیا جاتا ہے جو اسے جانچ سے پہلے یاد تھی۔ اس سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ آموزش یقیناً قوع پذیر ہوئی ہے۔

اس طرح آموزش ایک استنباطی عمل ہے اور یہ کارگذاری سے مختلف ہے۔ کارگذاری کسی شخص کا مشاہدہ شدہ کردار یا جوابی عمل یا کام ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 'استنباط' لفظ کا کیا مطلب ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے اُستاد آپ سے ایک نظم زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ اُس نظم کو بار بار پڑھتے ہیں، اُس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ نظم حفظ ہو گئی ہے۔ آپ سے اُس نظم کو سنا نے کے لئے کہا جاتا ہے اور آپ اُسے سنا دیتے ہیں۔ آپ کے ذریعہ نظم کا سنا یا جانا کارگذاری ہے۔ آپ کی کارگذاری یعنی آپ کے ذریعہ نظم کو سنائے جانے کی بناء پر آپ کے اُستاد یہ استنباط کرتے ہیں کہ آپ نے نظم یاد کر لی ہے۔

آموزش کے مثالی خاکے

(Paradigms of Learning)

آموزش کی طریقوں سے واقع ہوتی ہے۔ کچھ ایسے طریقے ہیں جن کو آسان جوابی عمل کو حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کچھ دوسرا ایسے طریقے ہیں جن کو پیچیدہ جوابی عمل کو حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ باب کے اس حصہ میں آپ اُن سبھی طریقوں کو سیکھیں گے۔ سب سے آسان آموزش کی فرم کو التزام (Conditioning) کہتے ہیں۔ وو طرح کے التزاموں کی پہچان کی گئی ہے۔ پہلے طرح کے التزام کو کلاسیکی التزام اور دوسرا طرح کے التزام کو وسیتی یا فعالی التزام کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ، مشاہداتی آموزش، تصور کی آموزش، لفظی آموزش، اور مہارت کی آموزش بھی ہوتی ہیں۔

مُبیح - مُبیح آموزش(S-S Learning) کی ہے جس میں ایک مُبیح (یعنی گھنٹی کی آواز) دوسرے مُبیح (یعنی کھانے) کا اشارہ یا سکنل بن جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مُبیح دوسرے مُبیح کے موقع پذیر ہونے کے امکانات کا اشارہ کرتا ہے۔

کلاسیکی التزام کی مثالیں انسان کی روزمرہ کی زندگی میں بہتات میں ملتی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ نے ابھی ابھی دوپہر کا کھانا ختم کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بغل والی میز پر مٹھائی دی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کے منہ میں اُس مٹھائی کی لذت کا سکنل یا اشارہ ہوتا ہے اور آپ کے منہ میں رال آنی شروع ہو جاتی ہے اور آپ مٹھائی جیسی لذت کا احساس کرتے ہیں۔ یہ ایک مشروط جوابی عمل (CR) ہے۔ آئینے ہم دوسری مثال لیں۔ چھوٹا بچہ اپنی نشوونما کے شروعاتی مرحل میں تیز آواز سے قدرتی طور پر ڈرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک چھوٹا بچہ پھولا ہوا غبارہ پکڑتا ہے اور وہ پھوٹ جاتا ہے جس سے شور ہوتا ہے۔ بچہ ڈر جاتا ہے۔ اب دوسری بار نپے کو غبارہ پکڑا ایسا جاتا ہے جو اس کے ہاتھ میں پھوٹ جاتا ہے تو یہ شور کا اشارہ بن جانے کی وجہ سے نپے کے اندر خوف کا جوابی عمل پیدا کرتا ہے۔ غبارہ جو کہ ایک مشروط مُبیح ہے اور زور دار شور جو کہ غیر مشروط مُبیح ہے کہ یہ کے بعد دیگرے فوراً پیش کئے جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔

میں گھسیرہ اہواتھا اور دوسرا سر اگلاس میں تھا۔ ایک گھنٹی بجائی گئی اور اس کے فوراً بعد کتنے کو گوشت کے پاؤڈر کی شکل میں کھانا دیا گیا۔ کتنے کو کھانا کھانے دیا گیا۔ اگلے کئی دنوں تک جب بھی اُسے کھانا دیا جاتا تھا اس سے پہلے گھنٹی بجائی جاتی تھی۔ بہت سی سعی (Trials) کے بعد ایک آزمائشی سعی دی گئی جس میں ہر چیز اُسی طرح سے تھی جس طرح پہلے سبھی سعیوں میں تھی، بس فرق یہ تھا کہ اس آزمائشی سعی میں گھنٹی بخوبی کے بعد کھانا نہیں دیا گیا۔ اس امید سے کہ گھنٹی کے بعد کھانا آئے گا کتنے نے رال پکائی کیونکہ کتنے نے گھنٹی کا تعلق (رشتہ) کھانے سے جوڑ لیا تھا۔ اس طرح گھنٹی اور کھانے کے مابین ایجاد کی تباہی میں کتنے نے ایک نئے جوابی عمل کو سیکھ لیا یعنی اُس نے گھنٹی کے لئے بھی رال پکانا سیکھ لیا۔ اسے التزام کا نام دیا گیا۔ آپ سب نے یہ مشاہدہ کیا ہو گا کہ جب بھی کتوں کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو سبھی کتنے کے رال پکاتے ہیں۔ اس طرح سے کھانا ایک غیر مشروط مُبیح (US) اور اس کے بعد جو رال آتی ہے وہ غیر مشروط جوابی عمل (UR) ہے۔ التزام کے واقع ہو جانے کے بعد گھنٹی کی آواز ہونے پر رال آنا شروع ہو جاتی تھی۔ گھنٹی مشروط مُبیح (CS) اور اس کے ذریعہ پکائی گئی رال مشروط جوابی عمل (CR) ہو جاتی ہے۔ اس طریقہ کی وضاحت گوشوارہ 6.1 میں کی گئی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کلاسیکی التزام کے آموزش کی حالت

التزام کے مرحل اور عملیات کا تعلق		گوشوارہ 6.1:
التزام کے مرحل	مُبیح کی نوعیت	جوابی عمل کی نوعیت
پہلے دوران	کھانا (غیر مشروط مُبیح) (US)	رال کا آنا (غیر مشروط UR) (جوابی عمل)
دوران	گھنٹی کی آواز	چوکی (کوئی مخصوص جوابی عمل نہیں)
بعد میں	گھنٹی کی آواز (مشروط مُبیح) (CS) + کھانا (غیر مشروط یا مُبیح) (US)	رال کا آنا (غیر مشروط UR) (جوابی عمل)
	گھنٹی کی آواز (مشروط مُبیح) (CS)	رال کا آنا (مشروط جوابی عمل (CR))

کلاسیکی شالترازام کے تعین کنندے

(Determinants of Classical Conditioning)

کلاسیکی الترازام میں کسی جوابی عمل کا محسول کتنی جلدی اور مضبوطی سے وقوع پذیر ہوتا ہے یہ بہت سے عوامل پر منحصر کرتا ہے۔ مشروط جوابی عمل کی آموزش پر اثر ڈالنے والے کچھ اہم عوامل کا بیان حسب ذیل ہے:

1. مہجوں کے مابین وقت کا تعلق (Time Relations)

مشروط مہجع (CS) اور غیر مشروط مہجع (US) کے آنے کے مابین وقت پر منحصر کلاسیکی الترازام کے طریقہ کار کے اقسام جنم کا بیان حسب ذیل ہے، بنیادی طور پر چار ہیں۔ ان میں سے پہلے تین کو پیش رو الترازام طریقہ کار (Forward Conditioning Procedures) اور چوتھے کو پس رو طریقہ کار (Backward Conditioning Procedure) کہا جاتا ہے۔

ان طریقہ کاروں کے بنیادی اختباری تسلسل حسب ذیل ہیں:
(الف) جب مشروط مہجع اور غیر مشروط مہجع ساتھ ساتھ دیئے جاتے ہیں تو اسے ہموقت الترازام (Simultaneous Conditioning) کہتے ہیں۔

(ب) تاخیری الترازام (Delayed Conditioning) میں مشروط مہجع (CS) کے آنے کے بعد غیر مشروط مہجع (US) آتا ہے۔ مشروط مہجع غیر مشروط مہجع کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔

(ت) سراغ الترازام (Trace Conditioning) میں مشروط مہجع کے آنے اور اس کو ختم ہونے کے کچھ وقفہ کے بعد غیر مشروط مہجع آتا ہے۔

(ث) پس رو الترازام (Backward Conditioning) میں مشروط مہجع غیر مشروط مہجع کے آنے کے بعد آتا ہے۔

اب یہ جتنی طور سے طے ہو چکا ہے کہ تاخیری الترازام کا طریقہ کار مشروط جوابی عمل کے محسول کے لئے سب سے زیادہ بااثر ہوتا ہے۔ ہموقت اور سراغ الترازام کے طریقہ کار مشروط جوابی عمل کے محسول کی قیادت کرتے ہیں لیکن اس میں تاخیری الترازام کے طریقہ کار کے مقابلہ میں سعی کی زیادہ تعداد درکار ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ پس رو الترازام کے طریقہ کار میں جوابی عمل کا محسول کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔

2. غیر مشروط مہجوں کے اقسام (Type of Unconditioned Stimuli): کلاسیکی الترازام کے مطالعوں میں مستعمل غیر مشروط مہجوں کی دو بنیادی فرمیں ہیں اور وہ ہیں اشتہا کی (Appetitive) اور اکراہی (Aversive)۔ اشتہا کی غیر مشروط مہجوں اپنے آپ رغبت کے جوابی اعمال جیسے کھانا کھانے، پانی پینے اور مسلمے وغیرہ کے جوابی عمل پیدا کرتی ہیں۔ یہ جوابی اعمال تسلی اور رخوشی دیتے ہیں۔ دوسرا طرف اشتہا کی غیر مشروط مہجع جیسے شور، کڑواذائقہ، بچکا، دردناک انجکشن وغیرہ تکلیف دہ اور تقصیان دہ ہوتے ہیں اور چھٹکارہ پانے یا بھاگنے کے جوابی اعمال پیدا کرتے ہیں۔ یہ پایا گیا ہے کہ اشتہا کی کلاسیکی الترازام سست رفتار ہوتا ہے اور اس میں نسبتاً زیادہ حصوی سعی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اکراہی کلاسیکی الترازام ایک یا دو ہی سعیوں میں قائم ہو جاتا ہے۔

3. مشروط مہجوں کی شدت (Intensity of Conditioned Stimuli): مشروط مہجوں کی شدت اشتہا کی اور اکراہی دونوں طرح کے کلاسیکی الترازاموں کی رفتار پر اثر ڈالتی ہے۔ مشروط مہجع کی شدت جتنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ مشروط جوابی عمل کے محسول کی رفتار کو بڑھانے میں اتنی ہی زیادہ اثر دار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشروط مہجع کی شدت جتنی زیادہ تیز ہو گی الترازام قائم کرنے کے لئے اتنی ہی کم سعی کی ضرورت ہو گی۔

سرگرمی 6.1


پلیٹ پر گرتا تھا۔ بکس میں گھومتے ہوئے اور پنجھے مارتے ہوئے (جو جستجوئی کردار ہیں) بھوکا چوہا اتفاقاً بُٹن کو دبادیتا تھا اور پلیٹ پر کھانے کا ایک دانہ آجاتا تھا۔ بھوکا چوہا اسے کھایتا تھا۔ اگلی سعی میں تھوڑے وقفہ کے بعد چوہا جستجوئی کردار پھر شروع کر دیتا تھا۔ جیسے جیسے سعی کی تعداد بڑھتی گئی چوہا کھانا حاصل کرنے کے لئے بُٹن دبانے میں کم سے کم وقت لیتا گیا۔ التزام اُس وقت مکمل ہو گیا جب چوہے کو بکس میں چھوڑتے ہی وہ بُٹن دیتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بُٹن کا دبانا فعالی جوابی عمل ہے اور کھانا حاصل کرنا اس کا نتیجہ ہے۔

التزام کو سمجھنے اور اس کی وضاحت کے لئے آپ حسب ذیل مشق کر سکتے ہیں۔ آم کی کچھ قاشیں ایک پلیٹ میں لیجئے اور انہیں اپنے کلاس روم میں طلباء کو دکھائیے۔ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنے منہ میں کیا محسوس کیا؟

آپ کے بہت سے طلباء ساتھی بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے منہ میں رال آتی ہوئی محسوس کی۔

فعالی یا وسیلتی التزام

(Operant/Instrumental Conditioning)



شکل 6.2: اسکینر بکس

حسب بالا حالات میں جوابی عمل کھانا حاصل کرنے کا وسیلہ ہے اسی لئے اس طرح کی آموزش کو وسیلتی التزام بھی کہا جاتا ہے۔ وسیلتی التزام کی مثالیں ہماری زندگی میں بھی رونما ہوتی ہیں۔ بچے جب ماں کی غیر موجودگی میں مٹھائی کھانا چاہتے ہیں تو وہ ماں کے ذریعہ کھانے سے بچانے کے لئے چھپائے ہوئے مرتبان کو پہچانا سیکھ جاتے ہیں۔ بچے اپنے والدین اور دوسروں سے پاسداری حاصل کرنے کے لئے انساری اور ”پلیز“، کہنا سیکھ جاتے ہیں۔ ریڈیو چلانا، کیمرہ اور ٹی وی وغیرہ میکانیکی چیزوں کا فعل لوگ وسیلتی التزام کے اصولوں کے بنابر ہی سیکھتے ہیں۔ واقعتاً انسان وسیلتی التزام کے ذریعہ ہی مقصد یا ہدف کو حاصل کرنے کے چھوٹے راستے (شرط

اس طرح کے التزام کی کھوج سب سے پہلے بی۔ ایف۔ اسکینر (B.F.Skinner) نے کی تھی۔ اسکینر نے کسی جاندار کے ماحول میں فعال کرنے کے وقت ارادی جوابی عمل روپزدیر ہونے کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ان ارادی جوابی اعمال کو فعالیات (Operants) کہا۔ فعالیات ایسے کردار یا جوابی عمل ہیں جو جانوروں یا انسانوں کے ذریعہ ارادی طور پر لئے جاتے ہیں اور وہ ان کے بس میں ہوتے ہیں۔ لفظ ”فعال“ کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ جاندار ماحول پر فعال کرتا ہے۔ فعال کردار کے التزام کو فعالی التزام کہا جاتا ہے۔

اسکینر نے اپنے مطالعات چوہوں اور کبوتروں پر ایک مخصوص طریقہ سے بنائے گئے بکس میں کئے جسے اسکینر بکس کہا جاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک بھوکے چوہے کو بکس کے ایک خانہ میں رکھا گیا۔ بکس اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ چوہا اندر گھوم تو سکتا تھا لیکن باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اس میں ایک بُٹن تھا جس کا تعلق بکس کے اوپر رکھے ہوئے کھانے کے ایک پلیٹ سے تھا (تصویر 6.2 دیکھیں)۔ جب بُٹن دبتا تھا تو کھانے کا ایک دانہ بُٹن کے قریب رکھے ہوئے

جاندار کو تکلیف دہ مہمیجوں سے آزاد کرتے ہیں یا چھکارا دلاتے ہیں یا احتراز دلاتے ہیں متفقہ تقویت کے حامل ہیں۔ اس طرح متفقہ تقویت احتراز (نچنے) اور بھاگنے کے عمل کو سکھاتی ہیں۔ مثلاً ٹھنڈے کے موسم میں انسان سردی سے بچنے یا احتراز کرنے کے لئے گرم کپڑے پہنانا یا لکڑی جلانا یا ہیٹر کا استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ انسان خطرناک مہمیجوں سے دور رہنا سیکھتا ہے کیونکہ وہ متفقہ تقویت مہیا کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ متفقہ تقویت سزا نہیں ہے۔ سزا کا استعمال جوابی عمل کو کم کر دیتا یاد بادیتا ہے۔ جبکہ متفقہ تقویت بجاویا بھاگنے کے جوابی عمل کے اختلال کو بڑھاتا ہے۔ مثلاً ڈرائیور اور اس کے پاس بیٹھا شخص ایکسٹینٹ کی حالت میں زخمی ہونے سے بچنے یا ٹریفک پولیس کے ذریعہ فائن کرنے جانے سے بچنے کے لئے سیٹ بلیٹ باندھتے ہیں۔

یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی سزا جوابی عمل کو مستقل طور پر نہیں دباتی ہے۔ بلکہ اورتا خیری سزا کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سزا جتنی زیادہ قوی ہوتی ہے جوابی عمل کے دنبے کا اثر اتنا زیادہ دیر پا ہوتا ہے لیکن یہ مستقل کسی بھی حال میں نہیں ہوتا ہے۔

کبھی بھی سزا کے قوی ہونے کے باوجود اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے برخلاف سزا یافتہ شخص کے اندر سزا دینے والے ایجنت یا شخص کے تین ناپسندیدگی یا نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔

تقویت کی تعداد اور دیگر خصوصیات

(Number of Reinforcement and other Features): یہ ان سعیوں کی تعداد کی طرف اشارہ کرتی ہے جن پر جاندار کو تقویت یا انعام دیا گیا ہے۔ تقویت کی مقدار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہر ایک سعی پر کتنا تقویتی مہیج (یعنی کھانا یا پانی یا درود دینے والے ایجنت کی شدت) پاتا ہے۔ تقویت کی کیفیت تقویت بخش کی قسم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کئٹھا یا کیک کے ٹکڑوں کے مقابلہ میں چک پیز یا

کٹھ) سیکھ جاتے ہیں۔

فعالی التزام کے اثر کنندے

(Determinants of Operant Conditioning)

آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ فعالی یا وسیقی التزام آموزش کی ایک ایسی قسم سے جس میں کردار سیکھا جاتا ہے، اُسے قائم رکھا جاتا ہے یا اس کے نتیجے کے طور پر کردار میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ ایسے نتائج کو تقویت بخش (Reinforcers) کہا جاتا ہے۔ تقویت بخش کی تعریف کسی بھی ایسے مہیج یا وقوعہ کے طور پر کر سکتے ہیں جو چاہے جانے والے جوابی عمل کی روپیہ کے اختلال کو بڑھادیتے ہیں۔ تقویت بخش کی ایسی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں جو جوابی عمل کی رفتار اور اس کی طاقت پر اثر ڈالتی ہیں۔

فعالی التزام قسم کی بنابر مثبت، متفقہ، تعداد یا انتکار کے طرف ہوتی ہے۔ کیفیت کی بنابر ارفع اور ادنی ہوتی ہے اور جدول (شیدول) کے لحاظ سے لگاتار اور بالوقفہ (جزوی) ہوتی ہے۔ یہ بھی خصوصیات فعالی التزام کی رفتار پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک دوسرا اعمال جو اس طرح کے التزام پر اثر ڈالتا ہے وہ ہے جوابی عمل یا کردار کی نوعیت۔ وقت کا وہ وقفہ جو جوابی عمل کے روپیہ ہونے اور تقویت کے نتیجے میں حائل ہوتا ہے وہ بھی فعالی التزام پر اثر ڈالتا ہے۔ آئیے ہم ان میں سے کچھ عوامل کا تجزیہ کریں۔

تقویت کے اقسام (Types of Reinforcement):

تقویت مثبت یا متفقہ ہو سکتی ہے۔ مثبت تقویت کے اندر وہ مہیج آتے ہیں جن کا نتیجہ خوشگوار ہوتا ہے۔ ایسے مہیجات ان جوابی اعمال کو پختگی دیتے ہیں اور انہیں قائم رکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رونما ہوتے ہیں۔ مثبت تقویات ضروریات کو مطمئن کرتی ہیں۔ ان میں کھانا، پانی، طمع، تعریف، روپیہ، مرتبہ، اطلاع وغیرہ شامل ہیں۔ متفقہ تقویت کے اندر ناخوشگوار اور تکلیف دہ مہیج دہ مہیج آتے ہیں۔ ایسے جوابی عمل جو

چاہے جانے والے جوابی عمل کو ہر بار وقوع پذیر ہونے پر ہر بار تقویت دی جاتی ہے تو اسے مسلسل تقویت کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف بالوقتہ تقویت کے جدول میں جوابی عمل کو کبھی تقویت دی جاتی ہے اور کبھی نہیں۔ اسے جزوی تقویت کہا جاتا ہے اور یہ پایا گیا ہے کہ جزوی تقویت مسلسل تقویت کے مقابلہ میں تدھیم کے لئے زیادہ مدافعت پیدا کرتی ہے۔

تا خیری تقویت (Delayed Reinforcement): (Delayed Reinforcement) تقویت کا اثر اس کی روپذیری میں تاخیر کرنے سے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ تقویت دینے میں تاخیر کی وجہ سے کارکردگی کمزور سطح کی ہو جاتی ہے۔ اس کا مشاہدہ ہبھوں سے یہ پوچھ

روٹی کے ٹکڑے کم تر درجہ کے تقویت بخش ہیں۔ عام طور سے الترام کی رفتار اس حد تک بڑھتی ہے جس حد تک تقویت کی تعداد، مقدار اور کیفیت بڑھتی ہے۔

تقویت کے جدول (Schedules of Reinforcement): تقویت کا جدول الترام کی سعیوں کے دوران تقویت کو دینے کا بندوبست ہے۔ تقویت کا ہر جدول الترام کی رفتار پر اپنی طرح سے اثر ڈالتا ہے اور اس طرح سے مشروط اعمال مختلف صفات کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ فعالی الترام میں مستعمل جاندار ہر سعی میں تقویت حاصل کر سکتا ہے یا کچھ سعی میں اسے تقویت حاصل ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں۔ اس طرح تقویت مسلسل ہو سکتی ہے یا بالوقتہ۔ جب

باکس 6.1 کلاسیکی اور فعالی الترام میں فرق:

3. کلاسیکی الترام میں اختبار کنندہ غیر مشروط مہیج کے روپذیر ہونے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جبکہ فعالی الترام میں تقویت بخش اس جاندار کے کنٹرول میں ہوتا ہے جو آموزش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لئے کلاسیکی الترام میں غیر مشروط مہیج حاصل کرنے کے لئے جاندار سرگرم نہیں رہتا ہے۔ جبکہ فعالی الترام میں وہ تقویت پانے کے لئے سرگرم رہتا ہے۔

4. دونوں قسموں کے التراموں میں اختباری رُوداد کو بتانے کے لئے مختلف تکنیکی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فعالی الترام میں جسے تقویت بخش کہا جاتا ہے اسے کلاسیکی الترام غیر میں مشروط مہیج کہا جاتا ہے۔ کلاسیکی الترام میں غیر مشروط مہیج کے دو کام ہوتے ہیں۔ شروعات میں یہ جوابی عمل کو پیدا کرتا ہے اور ایسا کام کے جانے والے جوابی عمل کو تقویت پہنچاتا ہے اور بعد میں یہ مشروط مہیج کے ذریعہ پیدا ہونے لگتا ہے۔

1. کلاسیکی الترام میں جوابی اعمال کسی مہیج کے کنٹرول میں ہوتا ہے کیونکہ یہ اضطراری ہوتے ہیں جو مناسب مہیجوں کے ذریعہ خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے مہیجوں کو غیر مشروط مہیج کی شکل میں اور ان سے پیدا شدہ جوابی عمل غیر مشروط جوابی عمل کے طور پر لئے جاتے ہیں۔ اس طرح پاؤ لاو کا الترام جس میں غیر مشروط جوابی عمل پیدا کیا جاتا ہے اکثر جوابی الترام کہا جاتا ہے۔

ویتنی الترام میں جوابی عمل جاندار کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور یہ ارادی جوابی عمل یا فعالیات (Operants) ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دونوں طرح کے التراموں میں دو مختلف طرح کے جوابی اعمال ملتزم ہوتے ہیں۔

2. کلاسیکی الترام میں مشروط مہیج اور غیر مشروط مہیج بالکل صاف ہوتے ہیں اور اچھی طرح سے متعارف ہوتے ہیں لیکن فعالی الترام میں مشروط مہیج صاف نہیں ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے لیکن اس کی براہ راست واقفیت نہیں ہوتی ہے۔

رہے اور انہوں نے بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کتوں کے اس کردار کو سیکھی ہوئی لاچارگی کہا گیا۔

یہ مظہر انسانوں میں بھی کام کرتا ہوا پایا گیا ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ کاموں کے مجموعوں میں ناکامیاب ہونے کی وجہ سے سیکھی ہوئی لاچارگی روپ زیر ہوتی ہے۔ ایک اخباری مطالعہ میں معمولوں (فائلوں) کو شروع میں ان کی کارکردگی کو خاطر میں لائے بغیر ناکامیابی کا تجربہ دیا گیا۔ دوسرے دور میں معمولوں کو کام کرنے کو دیا گیا۔ لاچارگی کی پیمائش اکثر معمول کے کام چھوڑنے سے پہلے اس کی لیاقت اور استقلال کے طور پر کی جاتی ہے۔ مستقل ناکامیابی استقلال کو کم کر دیتی ہے اور خراب کارکردگی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے لاچارگی کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے بہت سے مطالعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مستقل افرادگی سیکھی ہوئی لاچارگی پیدا کرتی ہے۔

یہ ایک دوسرا درجہ پر مظہر ہے جو دونوں طرح کے التزاموں کے مابین عمل کا نتیجہ ہے۔ سیکھی ہوئی لاچارگی نفیاٹی افرادگی کے معاملات میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ سلیمان اور میر نے اس مظہر کا مظاہرہ کئے پر کئے گئے مطالعہ سے کیا۔ کلاسیکی التزام کے طریقہ کار کے استعمال سے سب سے پہلے انہوں نے کہے کہ ایک آوازنائی جو مشروط متعین تھا اور بھل کا جھٹکا دیا جو غیر مشروط متعین تھا۔ اس میں کتوں کو بھاگ جانے یا بھل کے جھٹکے سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ آواز اور بھل کے جھٹکے بہت بار دھراتے گئے۔ اس کے بعد کتوں کو فعالی التزام کے طریقہ کار سے بھل کا جھٹکا دیا گیا۔ اس میں کہے اپنے سروں کو دیوار پر دبایا کر جھٹکے سے چھٹکارا پاسکتے تھے۔ پاؤ لاوین التزام کے اندر جھٹکے سے چھٹکارا نہ پاسکنے کے تجربہ کے بعد فعالی التزام کے طریقہ کار میں کہے جھٹکے سے بھاگ پانے یا اس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کہ صرف جھٹکے برداشت کرتے

تقویت (Reinforcement):

تقویت، اختبار کنندہ کے ذریعہ تقویت دینے جانے کا عمل ہے۔ تقویت بخش ایسے متعین ہوتے ہیں جو جوابی اعمال کی رفتار کو بڑھاتے ہیں یا ان اعمال کے روپ زیر ہونے کے احتمال کو بڑھاتے ہیں جو ان کے بعد آتے ہیں۔ ثابت تقویت بخش اس جوابی عمل کی رفتار کو بڑھاتا ہے جو اس کے روپ زیر ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ منفی تقویت بخش اس جوابی عمل کی رفتار کو بڑھاتا ہے جس کے بعد منفی تقویت بخش ہٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ تقویت بخش بنیادی یا ثانوی ہو سکتے ہیں۔ بنیادی تقویت بخش حیاتیاتی طور پر اہم ہوتے ہیں کیونکہ ان پر جاندار کی زندگی مخصوص ہوتی ہے (جیسے بھوکے جاندار کے لئے کھانا)۔ ثانوی تقویت بخش وہ ہے جو جاندار کے ماحول کے ساتھ تجربہ کی وجہ سے تقویت بخش کی خصوصیات کو اختیار کر لیتا ہے۔ ہم اکثر پیسے،

کر کہ وہ گھر کا کام کا ج کرنے پر کس طرح کے انعام کو پسند کریں گے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کام کرنے کے فوراً بعد چھوٹا انعام پانا کام کرنے کے کافی وقفہ کے بعد بڑے التزام پانے کے مقابلہ میں زیادہ پسند کرتے ہیں۔

آموزش کے اہم اعمال

(Key Learning Processes)

جب آموزش واقع ہوتی ہے تو چاہے وہ کلاسیکی التزام ہو یا فعالی اس میں آموزش کے کچھ اعمال (Processes) شامل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر تقویت، تعدیم یا سیکھی ہوئے جوابی عمل کا روپ زیر نہ ہونا، کچھ مخصوص حالات میں آموزش کے دوسرے مہجوب کے ساتھ تعمیم، تقویت دینے والے اور تقویت نہ دینے والے مہجوب کے مابین امتیاز اور اخذ بحالی وغیرہ شامل ہیں۔

حصولی سعی کے دوران جیسے جیسے تقویت کی مقدار (جیسے کھانے کے لکڑوں کی تعداد) بڑھتی ہے ویسے ویسے تعدیم کے لئے مدافعت گھٹتی ہے۔

اگر حصولی سعی کے دوران تقویت میں تاخیر کر دی جاتی ہے تو تعدیم کے لئے مدافعت بڑھتی ہے۔ ہر حصولی سعی میں تقویت دینے سے سیکھے ہوئے جوابی عمل کی تعدیم کے لئے مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف حصولی سعی کے دوران بالوقفہ یا ادھوری تقویت سیکھے ہوئے جوابی عمل کی تعدیم کے لئے مدافعت کو بڑھاتی ہے۔

تعییم اور امتیاز (Generalisation and Discrimination):


تعییم اور امتیاز کے اعمال سبھی طرح کی آموزشوں میں واقع ہوتے ہیں تو بھی التزام کے پس منظر میں اس پر بھرپور تجربے کئے گئے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی جاندار کو مشروط مہیج (روشنی یا گھنٹی کی آواز) کو دیئے جانے پر اس کے اندر مشروط جوابی عمل (راں کا آنا یا کوئی اور اضطراری جوابی عمل) پیدا ہونے کو ملزم کیا گیا ہے۔ اب التزام قائم ہو جانے کے بعد مشروط مہیج کی طرح کے کسی دوسرے مہیج (مثلاً ٹیلیفون کی گھنٹی کی آواز) کو دیئے جانے پر اس کے تیسیں بھی التزامی جوابی عمل کرنے کے مظہر کو تعییم کہا جاتا ہے۔ پھر فرض کیجئے کہ کسی بچہ نے ایک مخصوص سائز اور شکل کے برتن میں رکھی ہوئی مٹھائی کو تلاش کرنا سیکھ لیا ہے۔ اب جبکہ اس کی ماں نہیں ہوتی ہے تب بھی وہ برتن ڈھونڈ لیتا ہے اور مٹھائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایک سیکھا ہوا فعل ہے۔ اب دوسرا برتن جو اس سے مختلف سائز اور شکل کا ہے جس میں مٹھائی رکھی ہوئی ہے اور باور پی خانہ میں کسی دوسری جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ ماں کی غیر موجودگی میں بچہ اس برتن کو بھی تلاش کر لیتا ہے اور مٹھائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بھی تعییم کی ایک مثال ہے۔ جب ایک سیکھا ہوا جوابی عمل کسی نئے مہیج کے ذریعہ روپیہ رہتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو اسے تعییم کہتے ہیں۔

تعریف اور نمبروں کے درجات (اول، دوم، سوم وغیرہ) کو تقویت بخش کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ انہیں ہم ثانوی تقویت بخش کہتے ہیں۔ تقویت بخش کا مختتم استعمال مطلوبہ جوابی عمل کو پیدا کر سکتا ہے۔ کسی جوابی عمل کے درجہ بدرجہ مطلوبہ جوابی عمل کے قریب تر ہونے پر تقویت دے کر ہم اس جوابی عمل کی صورت گردی کر سکتے ہیں۔

تعدیم (Extinction):

تعدیم کا مطلب اس سیکھے ہوئے جوابی عمل کے خاتمه سے ہے جو اس حالت سے تقویت کو ہٹالینے کی وجہ سے روپیہ رہتا ہے جس میں وہ رونما ہوا کرتا تھا۔ کلاسیکی التزام میں اگر مشروط مہیج اور مشروط جوابی عمل کی روپیہ ری کے بعد غیر مشروط مہیج نہیں آتا ہے یا فاعلی التزام میں اگر اسکینر باکس میں بٹن دبایے پر کھانا نہیں آتا ہے تو سیکھا ہوا کردار دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جاتا ہے اور آخرش ختم ہو جاتا ہے۔ اسے ہی تعدیم کہتے ہیں۔

آموزش میں تعدیم کے لئے مدافعت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اب سیکھے ہوئے جوابی عمل کو تقویت نہیں دی جا رہی ہے تب بھی کچھ وقت تک یہ روپیہ رہو گا۔ لیکن تقویت کے بغیر سعی کی تعداد بڑھنے پر جوابی عمل کی طاقت درجہ بدرجہ کمزور ہوتی جاتی ہے اور آخرش یہ واقع ہونا بند ہو جاتا ہے۔ لتنی دیر تک سیکھے ہوئے جوابی عمل کی تعدیم کے لئے مدافعت برقرار رہے گی یہ کئی عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ تقویت دی گئی سعی کی تعداد کے بڑھنے پر تعدیم کے لئے مدافعت بڑھتی ہے اور سیکھا ہوا عمل اوپر سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اس اوپر سطح پر کارکردگی مختتم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سعی کی تعداد بڑھنے کا جوابی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ حصولی سعی کے دوران تقویت کی تعداد میں اضافہ ہونے سے بھی تعدیم کے لئے مدافعت بڑھتی ہے۔ اس کے آگے تقویت کی تعداد تعدیم کے لئے مدافعت کو گھٹاتی ہے۔ مطالعے یہ بھی بتاتے ہیں کہ



تصویر 3.6 از خود بحالی کا مظہر

مشاہداتی آموزش (Observational Learning)

آموزش کی دوسری قسم دوسروں کا مشاہدہ کرنے سے واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس قسم کی آموزش کو نقل یا تقلید کہا جاتا تھا۔ بیندو را اور اس کے ساتھیوں (Bandura and his colleagues) اختباری مطالعوں میں مشاہداتی آموزش کی کھوج بہت مفصل طور پر کی ہے۔ اس طرح کی آموزش میں انسان سماجی کردار سیکھتا ہے۔ اسی لئے اسے کبھی کبھی سماجی آموزش کہا جاتا ہے۔ بہت سے حالات میں انسان یہ نہیں جانتا کہ اُسے کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں وہ دوسروں کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان کے کردار کو اپنے اندر ڈھالتا ہے۔ اسی لئے اس طرح کی آموزش کو مثالی نمونہ کی آموزش یا مانڈنگ کہا گیا ہے۔

مشاہداتی آموزش کی مثالیں ہماری سماجی زندگی میں بھی ملتی ہیں۔ فیشن ڈیزائن س مختلف ڈیزائنوں اور وضع کی پوشاؤں کو مشہور کرنے کے لئے لمبی، خوبصورت اور شاندار لڑکیوں اور لبے، اسماڑ اور گٹھیلے لڑکوں کو نوکری پر رکھتے ہیں۔ لوگ ان کا مشاہدہ ٹیلیویژن فیشن شو اور میگزین و اخبار کے اشتہاروں میں کرتے ہیں۔ وہ ان

دوسرے عمل کو جو تعلیم کا تکمیلی عمل ہے اُسے امتیاز کہتے ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ کوئی بچہ ایک گھنی موچھوں والے کالے کپڑے پہنے ہوئے شخص سے ڈرنے کا ملتزم ہو گیا ہے۔ کسی اور حالت میں بچہ جب کسی دوسرے ایسے شخص سے ملتا ہے جس کے داڑھی ہے اور اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس سے ملنے پر بھی بچہ کے اندر خوف کی نشانیاں رونما ہوتی ہیں۔ بچے کا یہ خوف تمیٰ خوف ہے۔ بچہ ایک ایسے دوسرے اجنبی شخص سے ملتا ہے جو بھورے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور جس کی داڑھی موچھ منڈی ہوئی ہے۔ اس سے بچہ کے اندر کوئی ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ امتیاز کی مثال ہے۔ تعلیم کے رونما ہونے کا مطلب ہے امتیاز کرنے میں ناکامی۔ امتیازی جوابی عمل جاندار کی امتیاز کرنے کی صلاحیت یا امتیازی آموزش پر منحصر ہوتا ہے۔

از خود بحالی (Spontaneous Recovery)

از خود بحالی سیکھے ہوئے جوابی عمل کے خاتمہ کے بعد رونما ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی جاندار نے تقویت حاصل کرنے کے جوابی عمل کو سیکھ لیا ہے اس کے بعد جوابی عمل کی تعدیم ہو گئی ہے اور پچھوپت گذر گیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ کیا اس جوابی عمل کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے اور اب وہ جوابی عمل مشروط متعین دیئے جانے پر واقع نہیں ہوگا؟ یہ پایا گیا ہے کہ خاطر خواہ وقت گذر جانے کے بعد سیکھا ہوا یا مشروط جوابی عمل بحال ہو جاتا ہے اور مشروط متعین کے حاضر ہونے پر رونما ہو جاتا ہے۔ از خود بحالی کی مقدار تعدیم کی سیشن کے بعد گزرے ہوئے وقت کی مدت پر منحصر ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے وقت کی مدت جتنی زیادہ ہو گی سیکھے ہوئے جوابی عمل کی از خود بحالی اتنی ہی تیزی سے ہوگی۔ یہ بحالی اپنے آپ یا از خود واقع ہوتی ہے۔ تصویر 3.6 میں از خود بحالی کے مظہر کو دکھایا گیا ہے۔

آموزش میں مشاہدہ کرنے والے ماذل کے کردار کو دیکھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں لیکن ان کی کارکردگی ماذل کے کردار پر انعام یا سزا ملنے کے فعل سے متاثر ہوتی ہے۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ بچے گھر پر اور سماجی تقریبوں میں بڑوں کے کردار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کھلیوں میں بڑوں کی طرح کام کرنے کا سوانگ کرتے ہیں۔ مثلاً بچے شادی بیان کی تقریبوں، سالگرہ کی تقریبوں، سپاہی چور اور گھر کے رکھ رکھاؤ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ دراصل وہ اپنے کھلیوں میں ان کاموں اور کرداروں کی نقل کرتے ہیں جن کا مشاہدہ وہ سماج میں اور ٹیلیویژن پر دیکھتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں۔

بچے زیادہ تر سماجی کرداروں کی آموزش بڑوں کے مشاہدہ اور نقل کے ذریعہ کرتے ہیں۔ جس طرح سے وہ کپڑے رکھتے ہیں، بال کاڑھتے ہیں اور سماج میں دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ان سب کو وہ سماج میں دوسروں کا مشاہدہ کر کے سیکھتے ہیں۔ یہ بھی پایا گیا ہے کہ مشاہداتی آموزش کے ذریعہ بچے اپنی شخصیت کی بہت سی خصوصیات کو سیکھتے اور ان کی نشوونما کرتے ہیں۔ جارحیت، امدادی کردار، وضع داری، نرمی، جاں فشاںی اور آرام ٹلبی وغیرہ، بچے آموزش کے اسی طریقہ کے ذریعہ سیکھتے ہیں۔

سرگرمی 6.2:

آپ حسب ذیل مشق کر کے مشاہداتی آموزش کا براہ راست تجربہ حاصل کر سکتے ہیں:

آپ اسکول جانے والے کچھ چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیجئے اور انہیں کاغذ کے ٹکڑے سے کشتی بناتے ہوئے دکھائیے۔ آپ دو تین بار ان کے سامنے کشتی بنائیں اور ان سے کہیں کہ وہ غور سے اس کا مشاہدہ کریں۔ انہیں کئی بار یہ دکھائیے کہ کتنی بار کس انداز سے کاغذ کو موڑا جائے گا۔ اب انہیں کاغذ کا ٹکڑا دیجئے اور ناؤ بنانے کے

ماذلوں کی نقل کرتے ہیں۔ نئی سماجی حالت میں بہتر اور پسندیدہ لوگوں کا مشاہدہ کر کے ان کے کردار کو اپنے اندر ڈھالنا ہمارا عام تجربہ ہے۔

مشاہداتی آموزش کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے ہم بینڈورا کے ذریعہ کئے گئے مطالعوں کی مثالیں لے سکتے ہیں۔ اپنے اختباری مطالعہ میں انہوں نے بچوں کو پانچ منٹ تک ایک فلم دکھائی۔ فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک بڑے کمرے میں بہت سے کھلونے رکھے ہوئے ہیں ان میں ایک بڑی بو بُو گڑیا (Bobo's doll) بھی شامل تھی۔ کمرے میں ایک بڑا لڑکا داخل ہوتا تھا اور کھلونوں کے ساتھ خاص کر بو بُو گڑیا کے ساتھ جارحانہ کردار کرنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ گڑیا کو ٹھوکر مارتا تھا، اسے فرش پر پک دیتا تھا، اسے مارتا اور اس پر بیٹھ جاتا تھا۔ اس فلم کے تین نسخے تھے۔ ان میں سے ایک نسخہ میں بچوں کے ایک گروپ کو ماذل لڑکے کو غصہ ہونے اور گڑیا کے ساتھ جارحانہ کردار کی ایک آدمی کے ذریعہ تعریف کرتے ہوئے اور اسے دوسرے گروپ کو اس ماذل بچے کو اس کے جارحانہ کردار پر اسے ایک آدمی کے ذریعہ سزا دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ تیسرا نسخہ میں بچوں کے ایک تیسرا گروپ نے اس ماذل بچے کو نہ تو انعام پا تے ہوئے اور نہ سزا پا تے ہوئے دیکھا۔

تینوں گروپوں میں فلم کا مخصوص نسخہ دکھانے کے بعد انہیں اختیاری (تجرباتی) کمرہ میں رکھا گیا۔ بچوں کو کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دی گئی۔ بچوں کے تینوں گروپوں کا چھپ کر مشاہدہ کیا گیا اور ان کے کردار کو نوٹ کیا گیا۔ یہ پایا گیا کہ جن بچوں کو کھلونوں کے ساتھ لڑکے کو جارحانہ کردار کرنے پر انعام ملتے ہوئے دکھایا گیا تھا وہ سب سے زیادہ جارحانہ کردار کر رہے تھے اور جن کو جارحانہ کردار کرنے پر سزا ملتے دکھایا گیا تھا وہ کھلونوں کے ساتھ سب سے کم جارحانہ کردار کر رہے تھے۔ اس طرح مشاہداتی

اچانک ایک بکس پر کھڑے ہو گئے، جھپٹ کر ایک ڈنڈالیا اور اس کیلئے (کھانا) کو حاصل کر لیا جوان کی نارمل پہنچ کے باہر اونچائی پر لٹکا ہوا تھا۔ بن مانسوں نے جیسا کہ کوہلر کہتا ہے بصیرتی آموزش کا مظاہرہ کیا یعنی ایسے عمل کا مظاہرہ کیا جس کے ذریعہ مسائل کا حل اچانک صاف نظر آتا ہے۔

بصیرتی آموزش کے ایک نارمل اختبار میں ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ وقفہ گذرتا ہے جس میں مسئلہ کے حل کی طرف ظاہری طور پر کوئی پیش قدمی نہیں دکھائی دیتی ہے اور آخوند اچانک مسئلہ کا حل نمودار ہوتا ہے۔ بصیرتی آموزش میں اچانک حل ایک اصول ہے۔ ایک بار حل نمودار ہو جانے کے بعد دوسری مرتبہ جب مسئلہ پیش ہوتا ہے تو کوشش نہیں کرنی پڑتی بلکہ فوراً اُسے حل کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ظاہر ہے کہ بصیرتی آموزش میں جو سیکھا جاتا ہے وہ مہجوس اور جوابی عمل کے درمیان مشروط ایجاد کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وسیلے اور ایک مقصد (means and an end) کے درمیان وقوفی ایجاد ہوتا ہے۔ نتیجتاً بصیرتی آموزش کی تعمیم دوسرے حالات میں کی جاسکتی ہے۔

آموزشِ خفی (Latent Learning):

آموزشِ خفی وقوفی آموزش کی ایک دوسری قسم ہے۔ آموزشِ خفی میں نیا کردار سیکھا جاتا ہے لیکن اُسے جب تک تقویت نہیں دی جاتی ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ٹول مین (Tolman) نے آموزشِ خفی کے مظہر کو سمجھنے کے لئے شروعاتی مدد فراہم کی۔ آموزشِ خفی کو سمجھنے کے لئے ہم ان کے ایک اختبار کو اختصاری طور پر بیان کر رہے ہیں۔ ٹول مین نے چوہوں کے دو گروپوں کو ایک بھول بھلیاں میں رکھا اور انہیں جستجو (explore) کرنے کا یا ڈھونڈنے موقع فراہم کیا۔ ایک گروپ کے چوبے بھول بھلیاں کے اخیر میں کھانا حاصل کرتے تھے اور انہوں نے بھول بھلیاں کے راستوں کو بہت تیزی سے سیکھ

لئے کہتے۔

آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر بچے کسی نہ کسی طرح کامیابی کے ساتھ کششی بنالیتے ہیں۔

وقوفی آموزش (Cognitive Learning):

کچھ ماہرینِ نفسیات آموزش کو اس کے اندر شامل وقوفی عملیات کی رو سے دیکھتے ہیں۔ ان ماہرینِ نفسیات نے ایسے طرزِ نظریات کی نشوونما کی ہے جو صرف مہجج۔ جوابی عمل اور مہجج۔ مہجج کے تعلقات جیسا کہ ہم نے کلاسیکی الترام یا فعال الترام میں دیکھا ہے پر مرکوز نہ ہو کر ان اعمال پر مرکوز کیا ہے جو آموزش کے دوران وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس طرح وقوفی آموزش میں اس بات پر زور دینے کے بجائے کہ سیکھنے والا کیا کرتا ہے اس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے۔ اس قسم کی آموزش با بصیرت یا بصیرتی اور آموزشِ خفی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔

بصیرتی آموزش (Insight Learning):

کوہلر (Kohler) نے آموزش کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی وضاحت الترام کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے بن مانسوں پر بہت سے اختباری تجربے کئے جن میں بن مانسوں کو مشکل مسائل حل کرنے ہوتے تھے۔ کوہلر نے بن مانسوں کو ایک بند کھیل کے میدان میں رکھا اور اس بند میدان میں اتنی اونچائی پر کھانا رکھا کہ جو بن مانسوں کی پہنچ سے باہر تھا۔ بن مانسوں نے بڑی تیزی سے یہ سیکھا کہ کس طرح سے بکسوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر یا ڈنڈے کے ذریعہ کھانے کو اپنے پاس لایا جا سکتا ہے۔ اس اختبار میں آموزش سعی اور خطا یا تقویت کے نتیجہ میں رونما نہیں ہوئی، بلکہ بصیرت کی اچانک کونڈے کے ذریعہ رونما ہوئی۔ بن مانس بند میدان سے باہر آنے کے لئے کچھ وقت تک ادھر ادھر گھومتے رہے اور

لفظی آموزش (Verbal Learning)

لفظی آموزش التزام سے مختلف ہے اور صرف انسانوں تک محدود ہے۔ آپنے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان چیزوں، واقعات اور ان کی خصوصیات کا علم الفاظ کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ ایجاد ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس طرح کی آموزش کالیبارٹری میں مطالعہ کرنے کے لئے کئی طریقہ کار ایجاد کئے ہیں۔ ہر طریقہ کار کا استعمال کچھ قسموں کے لفظی مادہ سے متعلق آموزش کے مخصوص سوالوں کی واقفیت حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ لفظی آموزش کے مطالعہ میں ماہرین نفسیات بشمل لایعنی الفاظ (Nonsense syllables)، جانے پہچانے الفاظ، انجانے الفاظ (مثالی مادت کے لئے جدول 6.2 دیکھیں) جملوں اور پیراگرافوں وغیرہ کے مودوں کا استعمال کرتے ہیں۔

لیا۔ دوسری طرف دوسرے گروپ کے چوہوں کو انعام نہیں دیا جاتا تھا اور ظاہر طور پر ان میں آموزش کی کوئی نشانی نہیں دکھائی دی۔ لیکن بعد میں جب انہیں تقویت دی گئی تو انہوں نے بھول بھلیاں کے راستوں پر آتی ہی تیزی سے دوڑ لگائی جتنی تیزی سے انعام یافتہ گروپ کے چوہوں نے لگائی تھی۔

ٹول مین نے دلیل پیش کی کہ غیر تقویت یافتہ گروپ کے چوہوں نے بھول بھلیاں کی وضع قطع کو شروع میں ہی سیکھ لیا تھا لیکن یہ مخفی تھی اور انہوں نے اپنی آموزش خفی کا اظہار اُس وقت تک نہیں کیا جب تک انہیں تقویت نہیں دی گئی۔ علاوہ ازیں چوہوں نے بھول بھلیاں کا ایک وقفي نقشہ اپنے ذہن میں بنالیا یعنی اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے مقصد کے مکانی تعین مکان اور اس کی سمتیوں کا ایک دماغی خاکہ تیار کر لیا تھا۔

لفظی آموزش کے اختبار میں مستعمل مادت کی مثالی فہرست

جدول 6.2

لایعنی الفاظ (Nonsense Syllable)	انجانے الفاظ (Unfamiliar Words)	جانے پہچانے الفاظ (Familiar Words)
YOL	ZILCH	BOAT
RUV	PLUMB	NOSE
TOJ	VERVE	KNOW
LIN	BLOUT	GOAL
LUF	THILL	BOWL
GOW	SCOFF	LOAD
NOK	TENOR	FEET
RIC	WRACK	MEET
NEZ	BOUGH	TENT
TAM	MALVE	FOAM
SUK	PATTER	TALE
KOZ	MANSE	JOKE
GUD	KYDRA	MALE
MUP	BORGE	BALM
KUG	DEVEN	SOLE

میں ایک ایک کر کے مہیج الفاظ دکھائے جاتے ہیں اور شریک کا ریجیج جو ابی عمل کے الفاظ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اُسے جو ابی لفظ دکھایا جاتا ہے۔ ایک سعی میں سارے مہیج الفاظ دکھادیئے جاتے ہیں۔ سعی اُس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک شریک کا سمجھی جو ابی الفاظ ایک ہی سعی میں صحیح صحیح نہیں بتا دیتا ہے۔ کسوٹی تک پہنچنے میں بختی سعی لی گئی ہیں ان کا مجموعہ ایتلانی جوڑے کی آموزش کی پیمائش ہوتی ہے۔

2. ترتیب وار آموزش (Serial Learning): لفظی آموزش کے اس طریق کا استعمال یہ جانے کے لئے کیا جاتا ہے کہ شریک کا لفظی مرات کو کس طرح سیکھتا ہے اور اس میں کیا اعمال شامل ہیں۔ سب سے پہلے لفظی مرات یعنی لایعنی الفاظ، بالکل جانے پہچانے الفاظ، یا بہت کم جانے پہچانے الفاظ، یا آپس میں متعلق الفاظ وغیرہ کی فہرست بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے شریک کار کے سامنے پوری فہرست پیش کی جاتی اور اُس سلسلے وار الفاظ کو اُسی ترتیب میں دہرانے کو کہا جاتا ہے جس ترتیب میں انہیں فہرست میں دیا گیا تھا۔ پہلی سعی میں فہرست کا پہلا مددکھایا جاتا ہے اور شریک کار سے دوسرا مد بتانے کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ متعین وقت میں اس کی بازیافت نہیں کر پاتا ہے تو اختبار کرنندہ فہرست کا دوسرا مددکھایا جاتا ہے۔ اب اس بار مہیج بن جاتا ہے اور شریک کار سے تیسرا لفظ جو ابی لفظ بن جاتا یہ مہیج بن جاتا ہے اور شریک کار سے تیسرا لفظ جو ابی لفظ بن جاتا

لفظی آموزش کے مطالعہ میں مستعمل طریقہ کار (Methods used in Studying Verbal Learning)

1. ایتلانی جوڑے کی آموزش (Paired - Associates Learning): یہ طریق کا مہیج۔ مہیج (S-S) طرز کے انتظام کی طرح کا ہے اور مہیج۔ جو ابی عمل (S-R) کی آموزش میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مادری زبان کے الفاظ کے مساوی غیر ملکی زبان سیکھنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایتلانی جوڑے کی ایک فہرست تیار کی جاتی ہے۔ جوڑے کا پہلا لفظ مہیج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا لفظ جو ابی عمل کے طور پر۔ ہر جوڑے کے سمجھی ممبر ایک ہی زبان کے یا مختلف زبانوں کے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کی ایک فہرست جدول 6.3 میں دی گئی ہے۔

اس فہرست میں ہر جوڑے کا پہلا ممبر (مہیج ممبر) لایعنی الفاظ اسم (جو ابی ممبر) ہے۔ سیکھنے والے کو پہلے مہیج۔ جو ابی عمل دونوں جوڑے ساتھ ساتھ دکھائے جاتے ہیں اور اُسے ہدایت دی جاتی ہے کہ ہر مہیج لفظ دکھائے جانے پر وہ جو ابی عمل یاد رکھے اور اس کی بازیافت کرے۔ اس کے بعد آموزش کی سعی شروع ہوتی ہے جس

6.3 جدول ایتلانی جوڑے کی آموزش میں مستعمل مہیج۔ جو ابی عمل کے جوڑوں کی مثالیں			
جو ابی عمل	مہیج	جو ابی عمل	مہیج
GEN	-	LOOT	LUR
BEM	-	TIME	RUL
DIV	-	LAMP	VAK
WUF	-	DEER	KER
JIT	-	LION	HOZ
DAX	-	COAL	MUW
			- ROOF
			- GOLD
			- HILL
			- NAME
			- GOAT
			- BULL

معنویت اہم ہیں۔ مواد کی معنویت کی پیمائش کئی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایک متعین مدت میں دیئے گئے ابتداؤں کی تعداد، موادوں کی مماثلت اور استعمال کی تکرار، فہرست کے الفاظ کے ما بین تعلق، اور فہرست میں پچھلے الفاظ کا ہر لفظ سے ترتیبی انحصار وغیرہ کا استعمال مواد کی معنویت کی پیمائش کے لئے کیا گیا ہے۔ مختلف ابتداؤں سطحوں کے انگریزی لائیں الفاظ کی فہرستیں دستیاب ہیں۔ لا لائیں الفاظ کو ایسی فہرست سے چنانچا چاہیے جن کی ابتدائی قدر ایک ہو۔ ریسرچ میں برآمد تجویں کی بنابر حسب ذیل عام اصول سامنے آئے ہیں:

فہرست کی لمبائی بڑھنے، یا کم ابتدائی قدروں والے الفاظ کی فہرست میں تکرار یا فہرست کے الفاظ کے مابین آپسی تعلق کم ہونے سے فہرست کو سیکھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ سیکھنے میں جتنا زیادہ وقت صرف کیا جائے گا آموزش اُتنی ہی زیادہ پختہ ہوگی۔ اس سلسلے میں ماہرین نفسیات نے پایا ہے کہ مجموعی وقت کا اصول کا فرمان ہوتا ہے۔ اس اصول کے مطابق متعین تعداد کا مواد سیکھنے کے لئے وقت کا ایک معین وقفہ ضروری ہوتی ہے۔ اس میں اُس وقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس میں سعی کی تعداد کا بُوارہ کیا جاتا ہے۔ سیکھنے کے لئے جتنا زیادہ وقت لگتا ہے آموزش اُتنی ہی پختہ ہوتی ہے۔

اگر شریک کاروں کو ترتیبی آموزش کے لئے نہ کہا گیا ہو اور ان کو آزاد بازیافت کرنے کی آزادی ہو تو لفظی آموزش تنظیمی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد بازیافت میں شریک کا لفظوں کی بازیافت ان کو پیش کی گئی ترتیب میں نہ کر کے ایک نئی ترتیب یا سلسلہ میں کرتے ہیں۔ باوس فیلڈ (Bousfield) نے سب سے پہلے اس کو اختباری طور پر ثابت کیا۔ انہوں نے ساٹھ (۲۰) الفاظ کی ایک فہرست بنائی جس میں پندرہ (۱۵) الفاظ ہر چار معنوی ناموں: (۱) نام (۲) جانور (۳) پیشے اور (۴) سبزی کی قسموں میں سے تھے۔ ان الفاظ کو شریک کاروں کے سامنے ایک ایک کر کے

ہے بازیافت کے لئے کہا جاتا ہے۔ اگر شریک کار اُسے صحیح نہیں دوہر اپاتا ہے تو اختبار کنندہ صحیح مدد کھاتا ہے جو چوتھے لفظ کے لئے میکی مدبن جاتا ہے۔ اس طریق کا رکور ترتیب وار پیش بینی طریق کار (Serial Anticipation Method) کہتے ہیں۔ آموزشی سعی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک شریک کا کسی ایک سعی میں سمجھی مدت کی سہی سہی پیش بینی نہ کرو دیتا ہے۔

3. آزادانہ بازیافت (Free Recall): اس طریق کار میں شریک کا رکور کی ایک فہرست سے لفظوں کو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے پیش کیا جاتا ہے جنہیں وہ پڑھتا ہے اور ان الفاظ کو بولتا ہے۔ ہر لفظ ایک متعین مدت کے لئے دکھایا جاتا ہے۔ فہرست کے الفاظ کو پیش کرنے کے فوراً بعد شریک کار سے الفاظ کو کسی بھی ترتیب میں بازیافت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ فہرست کے الفاظ ایک دوسرے سے متعلق یا غیر متعلق ہو سکتے ہیں۔ فہرست میں دس سے زیادہ الفاظ شامل کئے جاتے ہیں۔ اس طریق کار کا استعمال یہ جاننے کے لئے کیا جاتا ہے کہ شریک کا رکور کو حافظہ میں رکھنے کے لئے کس طرح سے ترتیب دیتا ہے۔ مطالعوں میں یہ پایا گیا ہے کہ جو الفاظ فہرست کے شروع یا اخیر میں ہوتے ہیں ان کی بازیافت بیچ میں آئے ہوئے الفاظ کی بازیافت کے مقابلہ میں آسان ہوتی ہے۔ فہرست کے بیچ میں آئے ہوئے الفاظ کی بازیافت مشکل ہوتی ہے۔

لفظی آموزش کے تعین کنندے

(Determinants of Verbal Learning)

لفظی آموزش پر سب سے زیادہ اختباری مطالعے کئے گئے ہیں۔ یہ مطالعے بتاتے ہیں کہ لفظی آموزش کی رفتار بہت سے عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم عامل اُس لفظی مواد کی خصوصیات ہیں جنہیں سیکھنے کے لئے شریک کا رکور دیا جاتا ہے۔ ان کے اندر سمجھی جانے والی فہرست کی لمبائی اور مواد کی

تصورات کی آموزش (Concept Learning)

جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ بے شمار چیزوں، وقوعوں اور جانداروں پر مشتمل ہے۔ یہ چیزیں اور واقعات اپنی ہیئت اور کام کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بہت سے کاموں میں سے انسانوں کو ایک یہ بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ انہیں چیزوں، واقعات، جانوروں وغیرہ کو اس طرح درجات میں منظم کرنا ہوتا ہے کہ ایک زمرے میں درجہ بند کی ہوئی چیزیں اگرچہ صفات میں مختلف ہوں لیکن انہیں ایک ہی طرح سے برتابا جاتا ہو۔ اس طرح کی تنظیم میں تصور کی آموزش ملوث ہوتی ہے۔

تصور کیا ہے؟ (What is a Concept?) :


کوئی بھی تصور ایک ایسا زمرہ ہوتا ہے جو بہت ساری چیزوں اور واقعات کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جانور، پھل، عمارت اور بھیر تصور یا زمرے کی مثالیں ہیں۔ اس بات پر دھیان دیں کہ تصور اور زمرہ کی اصطلاحیں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کئے ہیں۔ کسی تصور کی تعریف خصوصیات یا صفات کے ایک ایسے مجموعہ کی شکل میں کی جاسکتی ہے جو کسی اصول کی بناء پر ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں۔ تصور کی مثالیں ایسی چیزیں یا واقعات یا کردار ہیں جن کی مشترکہ صفات ہوتی ہیں۔ خصوصیت (Feature) کسی چیز یا واقعہ یا جاندار کی کوئی ایسی صفت یا پہلو ہوتا ہے کہ جب اس کا مشاہدہ کیا جائے تو مشاہدہ کی گئی صفت میں وہ ایک طرح کی ہوں اور ان کی بناء پر دوسری چیزوں سے ان کا امتیاز کیا جاسکتا ہو۔ صفت کی بہت سی قسمیں ہیں اور ان کے امتیاز کا انحصار مشاہدہ کرنے والے کی ادارکی حستہ سیست کی سطح پر ہوتا ہے۔ رنگ، سائز، تعداد، شکل، ہمواری، کھر دراپن، چکناہٹ اور سختی وغیرہ جیسے خاصوں کو خصوصیات کہا جاتا ہے۔

ترتیب وار طریقہ سے پیش کیا گیا۔ شریک کاروں سے ان الفاظ کو آزادانہ بازیافت کے لئے کہا گیا تو بھی انہوں نے ایک ہی زمرہ کے الفاظ کی بازیافت ایک ساتھ کی۔ انہوں نے اسے زمروں میں گچھا (Category Clustering) کہہ کر پکارا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حالاں کہ الفاظ بغیر کسی ترتیب کے شریک کار کو پیش کئے گئے تھے تو بھی شریک کاروں نے بازیافت میں انہیں زمروں کے حساب سے منظم کر لیا۔ یہاں قسموں کا گچھا فہرست کی نویعت کی وجہ سے رونما ہوا۔ یہ بھی پایا گیا ہے کہ آزاد بازیافت ہمیشہ شخصی طور پر منظم کر لی جاتی ہے۔ تجھی تنظیم یہ بتاتی ہے کہ شریک کار الفاظ یا مادت کو ذاتی طور پر منظم کر لیتے ہیں اور اُسی شکل میں ان کی بازیافت کرتے ہیں۔

لفظی آموزش عام طور پر ارادی ہوتی ہے لیکن الفاظ کی گچھ خصوصیات کی آموزش غیر ارادی یا حادثاتی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی آموزش میں شریک کار ایسی خصوصیات پر دھیان دیتے ہیں جیسے کہ کیا دو یا زیادہ الفاظ ہم فایہ ہیں، دونوں الفاظ ملنے والے حرف سے شروع ہوتے ہیں یا دونوں میں حرف علّت ایک ہے وغیرہ۔ اس طرح لفظی آموزش قصدی اور حادثاتی دونوں ہوتی ہے۔

سرگرمی 6.3

حسب ذیل الفاظ کو لیجھے اور ان کو الگ الگ کارڈوں پر لکھئے اور شریک کاروں سے ان کو یکے بعد دیگرے باواز بلند پڑھنے کے لئے کہیے۔ دوبار پڑھنے کے بعد انہیں کسی بھی ترتیب میں لکھنے کے لئے کہیے۔ کتاب، قانون، روٹی، قیص، کوٹ، کاغذ، پنسل، بسکٹ، قلم، زندگی، تاریخ، چاول، دہی، جوتے، سماجیات، مٹھائی، تالاب، آلو، آس کریم، مفلر اور نشر پیش کئے جانے کے بعد ان سے ان الفاظ کو پیش کی جانے والی ترتیب کو سوچے بغیر لکھنے کے لئے کہیے۔ اپنے اعداد و شمار کا تجزیہ کیجھے اور دیکھئے کہ بازیافت میں کسی طرح کی تنظیم رونما ہوئی یا نہیں۔



تصویر 6.4: 16 تصویریں جن کے اندر دو شکلیں جیسے مربع اور مثلث، دو رنگوں جیسے گلابی اور بھوڑے، اوپر اور نیچے کراس کا نشان، دائیں اور بائیں دائرہ۔ ان تصویریوں کو مصنوعی تصویر کی مثالوں اور غیر مثالوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

اوپری یا نیچے حصہ پر کراس کے نشانات بننے ہیں ان کے داہنے یا بائیں جانب دائرہ بننا ہوا ہے۔ ان کا ردود کی مدد سے مختلف اصول کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے تصویرات بناسکتے ہیں۔ خصوصیات کا وہ مجموعہ جو ایک دوسرے سے کسی اصول کے ذریعہ جڑے ہوں انہیں متعلقہ خصوصیات (relevant features) کہا جاتا ہے۔ جن خصوصیات کو اصول میں شامل نہیں کیا گیا ہے انہیں غیر متعلقہ خصوصیات (irrelevant features) کہا جاتا ہے۔ مثلاً تصویر 6.4 میں دئے گئے کارڈوں میں چار خصوصیات ہیں۔ وہ ہیں شکل، رنگ، کراس کی موجودگی، یا غیر موجودگی اور داہنے یا بائیں جانب دائرہ۔ دو خصوصیات کے استعمال کے ذریعہ پر دہ متعلقہ تصویر (Conjunctive Concept) بنانے کے لئے شکل اور جانب (سائز) کو متعلقہ کے طور پر لیا جاسکتا ہے اور ایسے دو کو غیر متعلقہ کے طور پر بھوڑا جاسکتا ہے۔ ایسے تصویرات کے لئے مثالی اور غیر مثالی تصویریں 6.5 میں دی گئی ہیں۔ تصویرات کے بارے میں تفیر کے باب 8 میں اور زیادہ مطالعہ کریں گے۔

کسی تصور کی ساخت کے لئے خصوصیات کو آپس میں جوڑنے کے مقصد سے جن اصولوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت آسان یا پچھیدہ ہوتے ہیں۔ اصول کچھ کرنے کے لئے ہدایت ہوتی ہے۔ تصویرات کی تعریف کرنے کے لئے جن اصولوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ماہرین نفسیات نے دو قسموں کے تصویرات کا مطالعہ کیا ہے۔ مصنوعی تصویرات اور قدرتی تصویرات یا زمرے۔ مصنوعی تصویرات ایسے تصویرات ہوتے ہیں جن کی تعریف صاف طور سے کی گئی ہو اور جن کی خصوصیات کو جوڑنے والے اصول مختصر اور سخت ہوں۔ کسی بھی تسلی بخش تعریف شدہ تصویر میں اس کی نمائندگی کرنے والی خصوصیات تنہا، طور پر بھی ضروری ہوتی اور مشترک طور پر بھی کافی ہوتی ہیں۔ تصویر کی مثال بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک چیز میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ دوسری جانب قدرتی تصویرات یا درجات عام طور سے صاف طور سے تعریف شدہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے تصویرات کے اندر حیاتیاتی چیزیں، واقعی دنیا کی مصنوعات اور انسان کے ذریعہ بنائی ہوئی چیزیں جیسے اوزار، کپڑے اور مکان وغیرہ آتے ہیں۔

آئیے ہم مربع کے تصویر کی مثال سامنے رکھیں۔ یہ باقاعدہ طور پر تعریف شدہ تصویر ہے۔ اس میں چار صفات ہوئی ضروری ہیں۔ جیسے یہ ایک بند تصویر ہے، اس کے چار پہلو ہوتے ہیں، ہر پہلو کی لمبائی برابر ہوتی ہے، اور اس کے زاویے برابر ہوتے ہیں۔ اس طرح مربع کی چار خصوصیات ہوتی ہیں جو پرده ملتحمہ کے اصول تعريف شدہ تصویرات بنانے کے مختلف اصولوں کو سمجھنے کے لئے آئیے ہم تصویر 6.4 پر نظر ڈالیں۔


تصویر 6.4 میں 16 کارڈ ہیں جن میں دو طرح کی شکلیں مربع اور مثلث ہیں، ان کے دورنگ گلابی اور بھورے ہیں۔ ان کے

ہے اور مخت کم لگتی ہے۔ بالفاظ دیکر یہ اور زیادہ از خود اور بغیر مخت کے ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی پایا گیا ہے کہ ہر مرحلہ میں کارکردگی بڑھتی ہے۔ ایک دور سے اگلے دور میں جانے پر جب کارکردگی کی سطح یکساں بنی رہتی ہے تو اسے کارکردگی کا پٹھار کہتے ہیں۔ ایک بار اگلا دور شروع ہونے پر کارکردگی بڑھنے لگتی ہے اور اس کی سطح اوپر اٹھتی جاتی ہے۔

مہارت کے حصول کی سب سے زیادہ موثر روادافٹس (Fitts) نے پیش کی ہے۔ فٹس کے مطابق مہارت کی آموزش تین ادوار جیسے وقوفی، ایتنا فی، اور خود اختیاری ادوار سے ہو کر گزرتی ہے۔ مہارت کی آموزش کے ہر دوسری میں مختلف طرح کے ذہنی اعمال شامل ہوتے ہیں۔ مہارت کی آموزش کے وقوفی دور میں یاد کرنے والے کو ہدایات کو سمجھنا اور انہیں حافظہ میں رکھنا ہوتا ہے اور اسے یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ کام کو کیسے انجام دینا ہے اس دور میں ہر خارجی اشارہ، ہدایات کی ضرورت اور اپنے جوابی عمل کے نتیجہ کو شعور میں زندہ رکھنا ہوتا ہے۔

دوسرा دور ایتنا فی ہے۔ اس دور میں مختلف حیاتی مادخلوں (Input) یا مہیجوں کو ٹھیک جوابی عملوں سے جوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے مشق بڑھتی ہے غلطیاں کم ہوتی جاتی ہیں، کارکردگی بڑھتی ہے اور اس میں لیا گیا وقت گھٹتا جاتا ہے۔ مشق کے جاری رہنے پر غلطی سے عاری کارکردگی شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ سیکھنے والے کو اب بھی سارے حیاتی مادخلوں (Inputs) کی طرف توجہ دینا ہوتا ہے اور اسے کام پر دھیان لگائے رہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور یعنی خود اختیاری دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں کارکردگی میں دواہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ایتنا فی دور کے توجہ کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، اور خارجی عوامل کے سبب پیدا شدہ مداخلت کم ہو جاتی ہے۔ آخر میں مہارت کارکردگی خود اختیاریت کو پالیتی ہے جس میں شعوری کوشش کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے۔

ایک دور سے دوسرے دور کی تبدیلی یہ بتاتی ہے کہ مشق ہی



تصویر 6.5: سب سے اوپر کی چار تصویریں تصور کی مثالیں ہیں اور بقیہ تصویریں تصور کی مثالیں نہیں ہیں۔ تصور کی مثالوں میں مثلث اور بھورا ضرور ہونا چاہئے اور دوسرا خاصیتیں بے معنی ہیں۔

مہارت کی آموزش (Skill Learning)

مہارت کی نوعیت (Nature of Skills): مہارت کی تعریف کسی پیچیدہ کام کو ٹھیک اور بخوبی کرنے کی قابلیت کے طور پر کی جاسکتی ہے۔ کار چلانا، جہاز اڑانا، کشی کھینا، شارت ہینڈ رائمنگ، لکھنا اور پڑھنا مہارت کی مثالیں ہیں۔ ایسی مہارت عمل اور مشق کے ذریعہ سیکھی جاتی ہیں۔ کوئی بھی مہارت ادرا کی حرکی جوابی اعمال کی کڑی یا مہیج۔ جوابی عمل (S-R) ایٹلاف کی ترتیب پر بنی ہوتی ہے۔

مہارت کے حصول کے ادوار

(Phases of Skill Acquisition)

مہارت کی آموزش کئی صفاتی طور پر مختلف ادوار سے ہو کر گزرتی ہے۔ ہر ایک بڑھتی ہوئی سمعی کے ساتھ کارکردگی آسان ہوتی جاتی

زبان سیکھے گا اور اخیر میں انگریزی میں حصولیابی کے لئے اس کاٹست لیا جائے گا۔ اب دوسرے سال وہ گروپ فرانسیسی پڑھے گا۔ سال کے اخیر میں اس گروپ کاٹست فرانسیسی میں حصولیابی کے نمبرات معلوم کرنے کے لئے کیا جائے گا۔ کنٹرول گروپ پہلے دور میں انگریزی زبان نہیں سیکھے گا اور سال بھر تک صرف روزمرہ کے کام کرے گا۔ دوسرے سال یہ اس گروپ کے شریک کاربھی فرانسیسی سیکھیں گے اور دوسرے سال کے اخیر میں ان کی فرانسیسی زبان کی حصولیابی کے نمبر حاصل کئے جائیں گے۔ اگر اختباری گروپ کے نمبرات کنٹرول گروپ کے نمبرات سے زیادہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبت انتقال رونما ہوا ہے اور اگر اختباری گروپ کے نمبرات کنٹرول گروپ کے نمبرات کے مقابلہ میں کم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منفی انتقال رونما ہوا ہے۔ اگر دونوں گروپ بالکل ایک ہی طرح کی کارکردگی دکھاتے ہیں تو یہ صفر انتقال اثرباتا ہے۔

اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ انتقال اثر کے مطالعہ میں عام انتقال اور مخصوص انتقال کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سے ظاہر ہو چکی ہے کہ پہلی آموزش ہمیشہ ثبت عام انتقال پیدا کرتی ہے۔ صرف مخصوص انتقال میں ایسا ہوتا ہے کہ انتقال اثر ثبت ہوتا ہے یا منفی اور کچھ حالات میں صفر اثر ہوتا ہے اگرچہ درحقیقت عام انتقال کی وجہ سے صفر انتقال نظریاتی اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ آئیے ہم عام انتقال اور مخصوص انتقال کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

مہارت کی آموزش کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اس میں مشق اور پریکٹس کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے مشق بڑھتی ہے ترقی کی در برابر طور پر بڑھتی ہے اور غلطی سے عاری کارکردگی کی اختیاریت (Automaticity) مہارت کا ثبوت بن جاتی ہے۔

انتقالِ آموزش (Transfer of Learning)

انتقالِ آموزش کو اکثر انتقالِ تربیت یا انتقالِ اثر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نئی آموزش پر پہلی آموزش کے اثر کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر پہلی آموزش موجودہ آموزش کو آسان بناتی ہے تو اسے ثبت انتقال مانا جاتا ہے اور اگر یہ موجودہ آموزش کو گھٹاتی یا مشکل بناتی ہے تو اسے منفی انتقالِ آموزش کہا جاتا ہے۔ آسانی یا مشکلات کے اثر کی غیر حاضری کا مطلب ہے کہ انتقالِ آموزش صفر ہے۔ ماہرین نفیسیات انتقالِ آموزش کے اثر کا مطالعہ کرنے کے لئے مخصوص اختیاری ڈیزائن کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہی ڈیزائن جدول 6.4 میں پیش کی گئی ہے۔

فرض کیجئے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انگریزی زبان کی آموزش فرانسیسی زبان کی آموزش پر اثر ڈالتی ہے یا نہیں۔ اس مطالعہ کے لئے شریک کاروں کا ایک بڑا نمونہ (Sample) چنئے۔ اب اس نمونہ کو بلا ترتیب دو گروپوں میں بانٹ دیجئے۔ ان میں سے ایک گروپ کا استعمال اختباری حالت میں اور دوسرے کا کنٹرول گروپ کے طور پر ہو گا۔ اختباری گروپ ایک سال تک انگریزی

جدول 6.4 آموزش کے انتقالِ اثر کے مطالعہ میں استعمال شدہ اختباری ڈیزائن

شریک کاروں کا گروپ	پہلا مرحلہ	دوسرا مرحلہ
اختباری	کام A کی آموزش کرتا ہے	کام B کی آموزش کرتا ہے
کنٹرول	کچھ نہیں کرتا خالی بیٹھا رہتا ہے	کام B کی آموزش کرتا ہے

عام انتقال (General Transfer)

عام انتقال کا تصور بہت صاف نہیں ہے اور اسی لئے اس کی مفصل تعریف نہیں کی گئی ہے۔ پھر بھی پہلی آموزش انسان کو اگلے کام کی آموزش کو بہتر بنانے کے لئے تیار کرتی ہے۔ پہلے کام کی آموزش سیکھنے والے کو اگلے کام کی آموزش کے لئے آسانی سے کرنے کے لئے تیار کرتی ہے۔ آپ نے کسی کرکٹ کے کھلاڑی کو میدان میں وکٹ کے پاس اپنی پوزیشن لیتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ کرکٹ کھلاڑی پہلے ایک پیر کو دلتا ہوا چلتا ہے پھر دوسرا پیر پر چلتا ہے۔ وہ بلے کو پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈھیلا کرنے کے لئے بغل سے گھماتا ہے۔ جب آپ امتحان میں جوابات لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے لکھنے کی رفتار مضمون ہوتی ہے اور آپ کے بیٹھنے کی پوزیشن تیزی سے لکھنے کے لئے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ مگر دو یا تین صفحات لکھنے کے بعد آپ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لکھنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور آپ کا بدن لکھنے کے کام کے لئے اچھی طرح سے خود کو ڈھال لیتا ہے۔ یہ آخری جواب کے لکھنے تک جاری رہتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد سرگرمی کا یہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ سرگرمی کا یہ اثر آموزش کے صرف ایک سیشن میں قائم رہتا ہے۔ صرف اُسی

جدول 6.5 شروعاتی اور بعد کے آموزشی کاموں کے درمیان مماثلاتی اور غیر مماثلاتی تعلقات

شمارات	دوسرا کام	دوسرے کام	تبصرہ
1.	SA-RA	SC-RD	مہیجات اور جوابی اعمال دونوں مختلف ہیں۔
2.	SA-RA	SA-RA	مہیجات وہی ہیں جوابی اعمال مماثلاتی ہیں۔
3.	SA-RA	SA-RA	مہیجات وہی ہیں لیکن جوابی اعمال مختلف ہیں۔
4.	SA-RA	SA-RA	مہیجات مختلف ہیں لیکن جوابی اعمال وہی ہیں۔
5.	SA-RA	SA-RA	مہیجات اور جوابی اعمال وہی ہیں لیکن اختلاف ایک دوسرا سے بدلتے ہیں۔

سیشن میں کوئی شخص ایک یادوگار سیکھ سکتا ہے۔

مخصوص انتقال (Specific Transfer)

جب بھی کوئی جاندار کچھ سیکھتا ہے تو وہ آموزش میجھ۔ جوابی عمل کے ایک سلسلہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو امتیاز کئے جاسکنے والے مہیجوں کی ایک کڑی کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے جن میں سے ہر ایک کا تعلق ایک مخصوص جوابی عمل سے ہوتا ہے۔ مخصوص انتقال کا مطلب ہے کام A کی آموزش کا کام B کی آموزش پر اثر۔ کام A کی آموزش کام B کی آموزش کو آسان بنا سکتی ہے یا اُسے اور مشکل بنا سکتی ہے۔ یا ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی اثر نہ ہو۔ یہ پہلے اور دوسرا کام کے درمیان مماثلت یا غیر مماثلت پر مختص ہوتی ہے۔ مہیجوں اور جوابی اعمال کے ممکنہ تعلقات جدول 6.5 میں دکھائے گئے ہیں۔

بہت سے اختباری مطالعوں کی بنیاد پر جدول 6.5 میں دکھائے گئے حالات کے حوالہ سے مخصوص انتقال کے بارے میں حسب ذیل خلاصے حاصل کئے گئے ہیں:

1. پہلی مثال میں شروعاتی اور انتقالی کام مہیجوں اور جوابی اعمال دونوں میں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے کسی مخصوص

مادل کی کشش، لفظی آموزش میں طریق کار، تصوراتی آموزش میں اصولوں کی نوعیت اور چیزوں و واقعات کی خصوصیات کا تجزیہ کیا ہے۔ اب ہم آموزش کے کچھ عام تعین کندوں کا تجزیہ کریں گے۔ یہ بحث مکمل نہیں ہے بلکہ اس میں صرف چند ایسے نمایاں عوامل کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

لگاتار بمقابلہ جزوی تقویت

(Continuous vs. Partial Reinforcement)

آموزش کے اختباروں میں اختبار کنندہ تقویت کو کسی مخصوص شیدول کے مطابق دیے جانے کے لئے مرتب کر سکتا ہے۔ آموزش کے سلسلہ میں دو طرح کے شیدول یعنی لگاتار اور جزوی شیدول بہت اہم پائے گئے ہیں۔

لگاتار تقویت میں شریک کار کو ہر ہدفی جوابی عمل کے بعد تقویت دی جاتی ہے۔ اس طرح کے تقویت کا شیدول جوابی عمل کی رفتار کو بڑھادیتا ہے۔ لیکن ایک بار تقویت کو روک لینے پر جوابی عمل کی شرح بہت جلدی گر جاتی ہے اور تقویت کے اس شیدول میں سیکھے ہوئے جوابی اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جاندار ہر سچی پر تقویت پا رہا ہوتا ہے اس لئے اس تقویت بخش کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ ان شیدولوں میں جہاں تقویت لگاتار نہیں دی جاتی ہے، ان میں کچھ جوابی اعمال کو تقویت نہیں دی جاتی ہے۔ اس لئے انہیں جزوی یا بالوقتہ شیدول کہا جاتا ہے۔ بالوقتہ شیدول کے مطابق جوابی اعمال کوئی طریقوں سے تقویت دی جاسکتی ہے۔ ایسا پایا گیا ہے کہ جزوی تقویت کا شیدول اکثر جوابی عمل کی بہت اوپری شرح پیدا کرتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب جوابی اعمال کو تناسب کے مطابق تقویت دی جاتی ہے۔ اس طرح کے شیدول میں جاندار بہت سے ایسے جوابی اعمال کرتا ہے جنہیں تقویت نہیں دی جاتی ہے۔ اس لئے یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ تقویت کو دیا جانا کب مکمل طور سے بند کر دیا گیا اور کب اس

انتقال کی امید نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی عام انتقال اسی میکانیت کی وجہ سے ثابت انتقال کچھ مقدار میں واقع ہو سکتا ہے۔

2. دوسرا حالت میں دونوں کاموں کے میچج ایک ہوتے ہیں اور جوابی اعمال بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ اس لئے اس حالت میں سب سے زیادہ انتقال واقع ہو سکتا ہے۔ یہ مستقل طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس حالت میں ثابت انتقال واقع ہوتا ہے۔

3. تیسرا حالت میں میچج ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جوابی اعمال مختلف ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی کچھ ثابت انتقال واقع ہوتا ہے۔

4. چوتھی حالت میں میچج مختلف ہوتے ہیں لیکن جوابی اعمال وہی ہوتے ہیں۔ اس لئے جوابی اعمال کے ساتھ نئے استلاف سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حالت میں ثابت انتقال حاصل ہوتا ہے۔

5. پانچویں حالت میں میچج اور جوابی اعمال وہی ہوتی ہیں لیکن ایتنا فوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے دوسرے کام کی آموزش میں منفی انتقال واقع ہوتا ہے۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ پہلے کام میں سیکھے ہوئے استلاف نئے ایتنا کی آموزش میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس طرح کی مداخلتوں کی وضاحت حافظہ کے باب 7 میں کی گئی ہے، جو انسانی حافظے سے متعلق ہے۔

آموزش کو سہل بنانے والے عوامل

(Factors Facilitating Learning)

پچھلے حصے میں ہم نے آموزش کے مخصوص تعین کندوں جیسے کلاسیکی الترام میں مشروط میچج اور غیر مشروط میچج کو پاس پاس پیش کرنا، الترام میں تقویت کی تعداد اس کی مقدار یا تاخیر، مشاہداتی آموزش میں

ایسا اس لئے کرتے ہیں کہ آپ فائل امتحان میں اچھے نمبروں یا اچھے درجے میں پاس ہونا چاہتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ متحرک ہوں گے سیکھنے کے لئے اتنی زیادہ محنت کریں گے۔ کچھ سیکھنے کے لئے آپ کے اندر تحریک دو ذرائع سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ بہت سی چیزیں اس لئے سیکھتے ہیں کیونکہ آپ کوان میں مزہ آتا ہے (اندرونی محرک) یا وہ آپ کو دوسرے مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع مہیا کرتے ہیں

(خارجی محرک)

میں صرف تاخیر کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف جب تقویت لگاتار دی جاتی ہے تو یہ بتانا آسان ہوتا ہے کہ کب اسے دیا جانا بند کر دیا گیا۔ اس طرح کی تفریق تعدیم کے لئے بہت فیصلہ کن پائی گئی ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ جزوی تقویت کے بعد کئے گئے جوابی عمل کی تعدیم لگاتار تقویت دیئے گئے جوابی عمل کے مقابلہ میں مشکل ہوتی ہے۔ اس حقیقت کی بناء پر کہ جزوی تقویت میں حاصل کئے گئے جوابی عمل تعدیم کے لئے بہت زیادہ مفعالتی ہوتے ہیں اس لئے اسے جزوی تقویت کا اثر کہا جاتا ہے۔

آموزش کے لئے تیار ہونا

(Preparedness for Learning)

مختلف نوع کے جانداروں کے رکن حسیاتی لیاقتوں اور جوابی اعمال کی قابلیتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ممیج - ممیج یا ممیج۔ جوابی عمل کے درمیان اختلاف قائم کرنے کے لئے ضروری میکانزم مختلف جانداروں میں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مختلف نوع کے جانوروں کی آموزشی قابلیتوں کی ایک حیایاتی حد ہوتی ہے جس طرح کہ ممیج - ممیج یا ممیج۔ جوابی عمل کی آموزش کوئی جاندار کتنی آسانی سے حاصل کرسکتا ہے اس ایتلافی میکانزم پر منحصر کرتا ہے کہ وہ نشانی طور پر اس کے لئے کتنا اہل یا تیار ہے۔ کوئی مخصوص طرح کی ایتلافی آموزش بن مانسوں یا انسانوں کے لئے آسان ہوتی ہے لیکن بلیوں یا چوہوں کے لئے وہ بہت مشکل ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی ناممکن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جاندار صرف انہیں ایتلافوں کو سیکھ سکتا ہے جن کو سیکھنے کے لئے وہ حیاتی طور پر تیار ہوتا ہے۔

تیار ہونے کے تصور کو بیانے یا بعد کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے جس کے ایک کنارے پر ایسے آموزشی کام یا ایتلاف ہوتے ہیں جو کسی نوع کے جاندار کے لئے آسان ہوتے ہیں اور دوسرے کنارے پر وہ آموزشی کام یا ایتلاف ہوتے ہیں جن کی آموزش

تحریک (Motivation)

سبھی جانداروں کو زندہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ان کو ننمودی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تحریک ایک ذہنی اور عضویاتی حالت ہے جو جاندار کو موجودہ ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مشتعل کرتی ہے۔ بالفاظ دیگر تحریک جاندار کو کسی ہدف یا مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے تدبی سے کام کرنے کے لئے طاقت بہم پہنچاتی ہے۔ اس طرح کا کام اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک ہدف یا مقصد کو حاصل نہ کر لیا جائے اور ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ تحریک آموزش کی شرط اول ہے۔ بچہ باور پری خانہ میں اس وقت کیوں جاتا ہے جب اس کی ماں گھر پر نہیں ہوتی ہے؟ وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ اسے مٹھائی کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس برتن کو ڈھونڈتا ہے جس میں مٹھائی رکھی ہوتی ہے۔ ایک بھوکی بلی کو بکس میں رکھا جاتا ہے۔ اتفاقاً وہ بٹن دباتی ہے اور بکس میں اس کے سامنے کھانا آ جاتا ہے۔ ایسے کام کو بار بار دھرائے جانے کے تحریک کی وجہ سے تلبی کو جیسے ہی بکس میں رکھا جاتا ہے فوراً بٹن دبانا سیکھ جاتی ہے۔

کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ درجہ XI میں نفسیات اور دوسرے مضامین کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ

ہر آموزگار کے ارتکاز کو شروع کرتی ہے، اسے قائم رکھتی ہے، اس کی قدرتی عمل کاری کے تین جوابی عمل کرتی ہے آموزگار کے آموزشی اسلوب کا تعین کرتی ہے اور طویل مدتی حافظہ کو آسان بناتی ہے۔

آموزشی اسٹائل خاص طور سے اور اکی جھتوں، معلومات کی عمل کاری اور شخصیت کی وضع سے حاصل کی جاتی ہے۔ ان طرزِ نظریات کا مختصر بیان حسب ذیل ہے:

1. اور اکی جہت طبیعی ماحول کے تین حیاتیاتی طور پر منحصر رہ عمل ہیں۔ یہ اشخاص کی ان پسندیدگیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کے ذریعہ لوگ اطلاع فراہم کرتے ہیں، جیسے سمعی، بصری، بوسے متعلق، حرکی اور لمسی۔

2. اطلاع کی عمل کاری ہمیں ایک دوسرے سے تفکر، مسائل کو حل کرنے اور اطلاعات کو یاد کرنے کی ساخت کے طریقوں پر جمع کرتی ہے۔ اس کو ہمارے اطلاع کی عمل کاری کا طریقہ سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً فعالی/تفکری، حسیاتی/وجودانی سلسلہ واری/ہم وقت وغیرہ۔

3. شخصیت کی وضعیات (وضع کی جمع) ہمارے گرد و نواح سے تعامل کرنے کا طریقہ ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا اور اک کرنے، اسے منظم کرنے اور اطلاعات کو بنائے رکھنے کا اپنا پسندیدہ، مستقل اور منفرد طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نظریہ فکر اس بات کو سمجھنے پر زور دیتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی شخصیت ان کے ماحول کے ساتھ تعامل پر اثر ڈالتی ہے اور یہ کس طرح آموزشی ماحول میں افراد کے ایک دوسرے کے تین جوابی عمل کو متاثر کرتی ہے۔

ایسے کئی ابعاد ہیں جن کے ساتھ سیکھنے کا اسلوب مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اینڈرسن (Anderson) نے تجزیاتی اور نسبتی آموزش کے اسٹائل کے مابین تفریق کی ہے۔ ان کی تفصیل جدول 6.6 میں دی گئی ہے۔ یہ صاف ہے کہ نسبتی اسٹائل والے لوگ مواد کو

کے لئے اس کے رکن بالکل بھی تیار نہیں ہوتے ہیں اور اس کی آموزش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پیانہ کے بیچ میں وہ کام اور ایجاد ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لئے اس کے رکن نہ تو تیار ہوتے ہیں اور نہ غیر تیار۔ وہ ان کاموں کو کر سکتے ہیں لیکن بہت مشکل اور استقلال کے ساتھ۔

متعلم یا آموزگار: آموزش کے اسلوب یا (اسٹائل)

(The Learner: Learning Styles)

آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک فیملی کے کچھ بچے با اوقات اسکول میں اچھی کارکردگی کرتے ہیں جب کہ دوسرے اچھی کارکردگی نہیں کرتے ہیں۔ کچھلی کئی دہائیوں سے آموزش کے اسلوب پر بہت ساری تحقیقات ہوتی ہیں۔ ان سے نہ صرف ایک ہی کلاس، ثقافت اور سماجی۔ معاشی کمیونٹی کے ممبروں کی اسٹائل میں تفریق کی کا ثبوت ملتا ہے بلکہ ان سے گروپ کے مابین مماثلت اور تفریق کا بھی پتہ چلتا ہے۔

آموزش کے اسٹائل کی تعریف آموزشی سیاق میں آموزگار کے مہیجوں کے تین جوابی عمل کرنے یا مہیجوں کے ایک ہی طرح سے استعمال کرنے کے ڈھنگ کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ ایک طریقہ ہے جس میں ہر آموزگار نئی اور مشکل اطلاع پر دھیان جمانا، عمل کاری کرنا اور یاد رکنا شروع کرتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کیا جاسکتا ہے کہ یہ تعامل سب کے لئے الگ الگ طور پر رونما ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی کلاس کے بچے شخصیت، ثقافتی تجربات اور اقدار میں منفرد ہیں۔ مختلف طلباء مختلف آموزشی ماحول اور آموزش کے مختلف طریقے پسند کرتے ہیں اور وہ منفرد لیاقت، طاقت اور کمزوریوں کے حامل ہوتے ہیں۔

اس لئے اس بات کا تجربہ کرنا ضروری ہے کہ آموزگار کے دھیان جمانے اور اسے بنائے رکھنے کے لئے کون سی ممکنہ بلبی ہے جو

شیپھے کو تلاش نہیں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی خصوصیات کو نہیں بتاتے ہیں۔ اس لئے ہم آبادی کو اقسام کے مجموعہ میں منقسم نہیں کر سکتے ہیں (جیسے بصیرتی لوگ، یروں بین لوگ وغیرہ)۔ ہم کسی بھی اسٹائل کے اندر آموزش کرنے کے قابل ہوتے ہیں چاہے ہماری پسند کچھ بھی ہو۔

آموزشی معدود ریال (Learning Disabilities)

آپ نے سنا، دیکھا اور پڑھا ہو گا کہ ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرنے

پوری اکائی یا مظہر کی پرده کشانی کے ذریعہ بہتر ڈھنگ سے سیکھتے ہیں۔ وہ صرف اکائی کے حصوں کو کل کے ساتھ ان کے تعلق کو سمجھ کر ان کی فہم حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف تجزیاتی کے آموزشی اسلوب کے لوگ اس وقت زیادہ آسانی سے سیکھتے ہیں جب اطلاع کو اس مجموعی سلسلہ کی وضع میں جسے وہ تصوراتی فہم کے لئے بناتے ہیں کی شکل میں ایک کے بعد دیگرے پیش کیا جاتا ہے۔

یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ مختلف آموزشی اسلوب کسی پیمانہ پر بنے ہوئے ایسے نقطے ہیں جو ہمیں مختلف قسموں کی ذہنی

جدول 6.6 آموزشی اسٹائل یا اسلوب

نسبتی اسٹائل	1. اطلاع کا کل کے حصہ کے طور پر ادراک کرتے ہیں۔ 2. وجود اتنی تفکیر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 3. اُسی مواد کو زیادہ آسانی سے سیکھتے ہیں جن میں جان نہیں ہوتی اور جو جذاتی نہیں ہوتے ہیں۔ 4. لفظی طور پر پیش کئے گئے تصورات اور اطلاعات خاص طور سے مناسب رکھنے والے تصورات اور اطلاعات کا حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ 5. غیر علمی میدانوں میں زیادہ کار-رُخ ہوتے ہیں۔ 6. با اختیار لوگوں سے مرعوب ہوتے ہیں، طلباء کی لیاقت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ 7. غیر دلچسپ کارکردگی سے الگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ 8. اسکول کے روایتی ماحول سے اس اسٹائل کی کشاکش ہوتی ہے۔
تجزیاتی اسٹائل	1. اطلاع کو مجموعی تصویر سے نکال کر سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں (ماں کے یا فون کس تفصیل پر ہوتا ہے)۔ 2. سلسلہ وار اور ہیئت شدہ تفکیر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 3. ایسے مواد کو زیادہ آسانی سے سیکھتے ہیں جن میں جان نہیں ہوتی اور جو جذاتی نہیں ہوتے ہیں۔ 4. مجرد تصورات اور غیر نسبتی تصورات کی یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ 5. علمی میدان میں زیادہ کار-رُخ ہوتے ہیں۔ 6. دوسروں کی رائے سے زیادہ متأثر نہیں ہوتے ہیں۔ 7. غیر دلچسپ کاموں میں لگے رہنے کی لیاقت دکھاتے ہیں۔ 8. یہ اسلوب زیادہ تر اسکول کے ماحول سے میل کھاتا ہے۔

کی ذہانت، تحریک، آموزش کے لئے سخت محتت کے قطع نظر مختلف آمیزشوں میں رونما ہوتی ہے۔

1. حروف لکھنے، الفاظ اور جملے اور متن کے پڑھنے اور بولنے میں پریشانیاں بہت کثرت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کئی بار کوئی سمیٰ نقش نہ ہونے کے باوجود انہیں سننے میں پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے بچے دوسرا بچوں سے اپنی آموزشی تراکیب کو بنانے میں بالکل مختلف ہوتے ہیں۔
2. آموزشی معذوری والے بچوں کے اندر ادراک کی بدنظری ہوتی ہے۔ ایسے بچے بہت دیر تک اپنا دھیان ایک جگہ نہیں جاسکتے ہیں اور آسانی سے ان کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے۔ اکثر دھیان کی کمی ان کے اندر بیش فعالی پیدا کر دیتی ہے یعنی وہ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور چیزوں کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔
3. جگہوں کے لئے کمزور شاخت رُخ اور وقت کا ناکافی احساس اس معذوری کی عام علامت ہے۔ ایسے بچے نبھی جگہوں سے آسانی سے شناسانہیں ہو پاتے ہیں اور کھو جاتے ہیں۔ ان کے اندر وقت کے احساس کی کمی ہوتی ہے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں دیر کر دیتے ہیں یا کبھی کبھی بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ وہ سمت کے بارے میں غلط فہمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور داہنے، بائیں، نیچے، اوپر کا غلط اندازہ لگاتے ہیں۔
4. آموزشی معذوری والے بچوں میں حرکی ربط کی صلاحیت اور حرفتی چاپک دستی کمزور ہوتی ہے۔ یہ ان کے اندر توازن کی کمی، پنسل بنانے کی نااہلی، دروازے کی کندڑی سے کام لینے کی نااہلی اور سائکل چلانے میں پریشانی وغیرہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ چیزوں کو کرنے کی زبانی ہدایات کو سمجھنے اور انہیں کرنے کے نااہل ہوتے ہیں۔
5. وہ اس بات کا غلط فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے بچے ان کے

کے لئے اسکول میں داخلہ لیتے ہیں۔ تاہم ان میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے تعلیمی عمل کے مطالبات بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کو ٹارک اسکول یا ڈر اپ آؤٹس (Drop-outs) کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں۔ جیسے حیاتی نقصان، ابٹائے ذہنی، سماجی اور جذباتی پریشانی، فیکلی کی غربت یا دوسرے ماحولیاتی اثرات، ثقافتی عقیدے اور معیار۔ ان کے علاوہ تعلیم جاری رکھنے میں اڑ جن ڈالنے کا ایک اور ذریعہ ہے جسے آموزشی معذوری کہا جاتا ہے۔ اس میں اسکولی آموزش یعنی معلومات اور مهارات کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے بچے اپنے آموزش کے کاموں میں آگے بڑھنے میں ناکام ہوتے ہیں۔

آموزشی معذوری ایک عام اصطلاح ہے۔ یہ بدنظری کے ایک غیر کیساں مجموعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آموزش کرنے، پڑھنے، لکھنے، بولنے، استدلال اور حسابی کاموں کی پریشانی کی شکل میں رونما ہوتی ہے۔ ایسی بدنظری کے مأخذ بچے میں پیدائشی ہوتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پریشانیاں مرکزی نظام عصبی کے مسائل سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جسمانی معذوری، حیاتی معذوری، ابٹائے ذہنی وغیرہ کے ساتھ ساتھ اور ان کے بغیر بھی واقع ہو سکتی ہے۔

یہ بات قبل غور ہے کہ آموزشی معذوری اوس طائلی ذہانت کے بچوں، صحیح حسیاتی حرکی نظام اور ٹھیک آموزش کے موقع والے بچوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اگر اس کا ٹھیک علاج نہیں کیا ہے تو یہ پوری زندگی جاری رہتی ہے اور بچے کی خود آگئی، پیشہ، سماجی تعلقات اور روزمرہ کے کاموں پر اثر ڈالتی ہے۔

آموزشی معذوریوں کی علامتیں

(Symptoms of Learning Disabilities)

آموزشی معذوریوں کی بہت سی علامتیں ہیں۔ یہ بدنظری بچوں میں ان

پہلوں کو بہتر بنانے کے لئے بہت سی تکنیکیں اور طریق کا راجباد کئے ہیں۔ ہم ان میں سے چار میدانوں میں (یعنی تنظیموں، نقصِ تطابق، کے علاج، بچوں کی پروش اور اسکولی آموزش) آموزش کے اصولوں کے اطلاق پر طاڑانہ نظر ڈالیں گے۔

تنظیموں میں کام سے غیر حاضری، علاج کے لئے بار بار چھٹی لینا، نقصِ ڈسپلن، سہی مہارت کی کمی جیسے بہت سے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ کمپنیوں میں حاضری بڑھانے اور غیر حاضری کو کم کرنے کے دلچسپ طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں ہر تیسرے مہینہ کے آخر میں ان ملازموں کے نام کی چیزیں جوایک بھی دن غیر حاضر نہیں رہے ہیں ایک ڈبے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ان میں سے چار سے پانچ فیصد ملازموں کے ناموں کو بلا ترتیب نکالا جاتا ہے اور انہیں کسی بھی دن غیر حاضر نہ رہنے کے لئے پرکشش انعامات دیئے جاتے ہیں۔ ایسے انعامات تنظیموں میں غیر حاضری کی شرح کم دیتے ہیں۔ ایسے ملازمین کی تعداد بڑھانے کے لئے جو سال بھر میں کسی بھی دن علاج کی چھٹی پر نہیں گئے ہیں، مختلف طریقوں کے فائدے دیئے جاتے ہیں۔ ڈسپلن کو بڑھانے کے لئے منجر ملازمین کے لئے ماذل کا کام کرنا شروع کرتے ہیں یا ملازمین کو ایسے ماذل منجروں کے ماتحت رکھا جاتا ہے۔

آموزشی اصولوں پر مبنی نقصِ تطابق اور سماجی طور سے غلط عادتوں اور کرداروں کی تبدیلی اور علاج کے لئے بہت سے طریقے بنائے گئے ہیں۔ ان طریقوں میں تدھیم کے اصول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے بچے اور بالغ جو نامعقول اور بے بنیاد خوف کے ساتھ ساتھ احترازی کردار کرتے ہیں، ان کے علاج کے لئے امپلوسیو اور فلڈنگ طریقہ علاج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امپلوسیو (Implosive) طریقہ علاج کی شروعات میں اُس شخص کو سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی چیز کے خیل کے لئے کہا جاتا ہے اور معانج اس کو صاف الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اس میں معانج ایک کوچ کے طور پر کام کرتا

دوست ہیں اور کون سے دوست نہیں ہیں۔ وہ جسمانی اشارات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔

7. آموزشی معدودری والے بچے عام طور سے اور اسکی بُنظی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر غلط بصری، سمعی، لمسی اور حرکی اور اک شامل ہیں۔ وہ دروازے کی گھنٹی اور ٹیلیفون کی گھنٹی کے مابین فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر حسی باریکی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اس کو عملی طور پر استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔

8. آموزشی معدودری کے بچوں کی ایک بڑی تعداد میں فہم عبارت کا نقص ہوتا ہے، وہ اکثر حروف اور الفاظ کی نقل نہیں کر پاتے ہیں۔ مثلاً وہ 'b' اور 'd' اور 'p'، 'q' اور 'w'، 'saw' اور 'unclear' میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ زبانی میادو کو منتظم بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ قابل غور ہے کہ آموزشی معدودری لاعلاج نہیں ہوتی ہے۔ اصلاحی تعلیم کے طریقے ان کے لئے سیکھنے میں مددگار ہوتے ہیں اور وہ دوسرے طلباً کی مانند ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی نفیسیات کے ماہرین نے آموزشی بُنظی سے متعلق زیادہ تر علامات کو درست کرنے کی تکنیکوں کی ایجاد کر لی ہے۔

آموزش کے اصولوں کے اطلاق

(Applications of Learning Principles)

زندگی کے مختلف میدانوں کو مالا مال کرنے میں آموزش کے اصولوں کی بیش بہا قیمت ہے۔ وہ سمجھی کام اور کردار جو ذاتی، سماجی اور معاشی زندگی کو خوشگوار بنانے اور سکون کے لئے ضروری ہیں سب سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی آموزش نفیسیاتی طور سے گاہد ہونی چاہیے۔ ہم عصر ماہرین نفیسیات نے کلاسیک اور فعال الترام، سماجی آموزش، لفظی آموزش، تصور کی آموزش اور مہارت کی آموزش پر مبنی بہت سے

علاج کلائیکی اور فعالی التزام کے مابین تفاضل پر منی ہے۔ حیاتی بازرسانی میں ایک جسمانی کام (جیسے دل کی دھڑکن کی رفتار یا بلڈ پریش) کا جائزہ لیا جاتا ہے اور حیاتیاتی عمل میں سدھار لانے کے لئے اس کے کام کی جانکاری مریض کو دی جاتی ہے۔ آپ علاج کے ان طریقوں کا تفصیلی مطالعہ کلاس XII میں کریں گے۔

تدریسی کاموں میں آموزش کے اصول کا بھرپور استعمال ہوتا ہے۔ مقاصد تدریس کو ہدایاتی کاموں کے تجزیہ اور ان کو آموزشی کی مختلف قسموں (جیسے مہیج۔ مہیج۔ مہیج۔ جوابی عمل، لفظی، مشاہدی اور مہارتی آموزش) میں فٹ کرنے کے بعد طے کئے جاتے ہیں۔ طلباء کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں کیا سیکھنا ہے اس کے لئے انہیں مشق کے مناسب حالات فراہم کئے جاتے ہیں۔ اطلاعات، معنی اور صحیح جوابی عمل کے حصوں کے لئے طلباء کو سرگرم شریک بنایا جاتا ہے۔ طلباء میں مناسب سماجی کردار اور ذاتی عادت کی نشوونما کے لئے اساتذہ ماذل اور مشفق کے طور پر کام کرتے ہیں۔ چونکہ طلباء کو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس لئے انہیں گھر پر مشق کے وافر موقع فراہم کئے جاتے ہیں۔ مہارتلوں کا تجزیہ مہیج۔ جوابی عمل کی کڑی کے طور پر کیا جاتا ہے اور طلباء کو عملي طور پر سیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

آموزشی اصولوں کا بہترین اطلاق بچوں کی پروفس کے لئے والدین کو آموزش کے اصولوں کا علم مہیا کر کے کیا جاتا ہے۔ کلائیکی التزام کے طریق کار کے استعمال کے ذریعے بچوں کو نظرے کی ضروری نشانیاں اور حفاظت کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ بچوں کے کردار کو فعالی التزام کے طریق کار کے استعمال کے ذریعے تبدیل کیا جاتا ہے اور ان کو شکل دی جاتی ہے۔ انعام کے منصافانہ استعمال سے والدین بچوں کی کامل دور کر کے انہیں پر جوش آموزگار بنا سکتے ہیں۔ ماذل اور ناصح کے طور پر والدین بچوں کو سماجی طور پر پر مہمات بناتے ہیں، فرض شناسی سے متعارف کرتے ہیں اور انہیں بات مذیر بتاتے ہیں۔

ہے۔ دوسری طرف فلڈنگ (Flooding) میں بیمار شخص کو اس چیز کے رو بروکرایا جاتا ہے جس سے اس کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوف کے علاج کے لئے سب سے بہتر طریقہ علاج سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے علاج کے لئے جو بہت زیادہ تشویشوں اور خوف کے مریض ہوتے ہیں منظم ازالہ تجسس (Systematic desensitisation) طریقہ علاج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کرداری طریقہ علاج ہے جس کا استعمال بے بنیاد خوف میں مبتلا مریضوں کی تشویش کا خاتمه برکس التزام (Counterconditioning) کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اہم مہیج کا ایک دوسرے نئے مشروط جوابی عمل کے ساتھ اختلاف قائم کرتے ہوئے کلائیکی التزام کے عمل کو اٹھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آن چاہی ایسی عادتوں کو ختم کرنے کے لئے جو صحت و خوشی کے لئے خطرناک ہوتی ہیں اکراہی طریقہ علاج (Aversion Therapy) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں معالج چیزوں کو اس طرح منظم کرتا ہے کہ نامطابقی عادتوں تکلیف دہ تجزیات پیدا کرتی ہیں اور ان سے بچنے کے لئے مریض انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً شراب کو ایک قے آور دوا کے ساتھ (جو بہت زیادہ متلی اور قلاتی ہے) دیا جاتا ہے (یہ دوارے زبردست متلی اور قے پیدا کرتی ہے) جس سے کہ متلی اور قے شراب کے لئے مشروط جوابی عمل بن جاتی ہے۔ نشوونمائی اہلیت اور شکل وضع (Shaping) کے لئے ماذنگ اور باقاعدہ تقویت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ شر میلے ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں انہیں وثوقی آموزش (Assertive learning) کرائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ علاج بھی آموزش کے اصولوں پر منی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سانس کی رفتار بڑھنے کے ساتھ دماغی سکون کھود دیتے ہیں، ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ذرا سی اکسی ہٹ پر بھی ان کا بلڈ پریش برٹھ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے علاج کے لئے نفیسیاتی معالج حیاتی بازرسانی (biofeedback) کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ

آمادگی، ماذنگ، منفی تقویت، فعالی یا وسیقی التزام، ثبت تقویت، سزاد، بالترتیب آموزش، از خود بحالی، آموزش انتقال، غیر مشروط جوابی عمل، غیر مشروط متعین، لفظی آموزش۔

ایتلافی آموزش، حیاتی بازرسانی، وقوفی نقشه، مشروط جوابی عمل، مشروط متعین، التزام، تفریق یا امتیاز ڈائیلکسیا، تقدیم، آزاد بازیابی، تعیین، بصیرت، آموزشی معذوری، ذہنی

خلاصہ

- آموزش کردار میں آئی ہوئی کوئی بھی نسبتاً مستقل تبدیلی یا تحریب اور مشق کے ذریعہ پیدا شدہ کرداری قوت ہے۔ یہ ماخوذ عمل ہے جو کارکردگی سے مختلف ہے۔ کارگردگی کہ مشاہدی کردار/ جوابی عمل رکام ہے۔
- آموزش کی خاص قسمیں ہیں: کلاسیکی اور فعالی التزام، مشاہدی آموزش، لفظی آموزش، تصور کی آموزش اور مہارت کی آموزش۔
- پاولاؤنے کلاسیکی التزام کی کھونج کتوں کے ہاضمہ کے مطالعہ کے دوران کی۔ اس آموزش میں جاندار مجھوں کے درمیان تعلق سیکھتا ہے۔ اس میں ایک غیر جانبدار متعین (مشروط متعین) جو کہ جاندار کی غیر مشروط متعین کے آنے کا پتہ دیتا ہے اور اسے تیار کرتا ہے مشروط جوابی عمل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
- فعالی یا وسیقی التزام کی سب سے پہلے کھونج اسکینرنے کی تھی۔ فعالی کوئی بھی ایسا جوابی عمل ہے جو جاندار کے ذریعہ از خود دیا جاتا ہے۔ فعالی التزام وہ ہے جس میں جوابی عمل کے بعد اگر تقویت آتی ہے تو جوابی عمل طاقتور ہو جاتا ہے۔ تقویت بخش کوئی بھی ایسا وقوعہ ہو سکتا ہے جو اپنے سے پہلے آئے ہوئے جوابی عمل کی تکرار کو بڑھادیتا ہے۔ اس لئے جوابی عمل کا نتیجہ اہم ہوتا ہے۔ فعالی التزام کی رفتار تقویت کی قسم، تعداد، یا نظام الاؤقات اور تقویت میں تاخیر سے متاثر ہوتی ہے۔
- مشاہدی آموزش کو نقل، ماذنگ اور سماجی آموزش بھی کہا جاتا ہے۔ ہم کسی ماذل کے کردار کا مشاہدہ کر کے جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ کارکردگی اس بات پر محصر کرتی ہے کہ آیا ماذل کے کردار کو انعام دیا گیا ہے یا سزا دی گئی ہے۔
- لفظی آموزش میں الفاظ، تلفظی اور معنوی مماثلت یا ضد کی بنابر ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اکثر وہ کچھوں (Clustess) میں منظم ہوتے ہیں۔ اختباری مطالعوں میں ایتلافی جوڑے کی آموزش، سلسلہ وار یا بالترتیب آموزش، اور آزاد بازیابی کے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مواد کی معنویت اور شخصی تنظیم آموزش پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ضمیمی بھی ہو سکتی ہے۔
- تصور ایک زمرہ (Catagory) ہے۔ یہ خصوصیات کے ایسے مجموعہ پر مشتمل ہوتا ہے جو اصول کے ساتھ ہدایت کی بنا پر ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی تصور قدرتی یا مصنوعی ہو سکتا ہے۔ مصنوعی تصورات عام طور سے

- متعین ہوتے ہیں جب کہ قدرتی تصورات باقاعدہ متعین نہیں ہوتے۔ باقاعدہ متعین تصورات کا اختباری مطالعہ انتخاب اور قبولیت کے طریقہ کارکے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ قدرتی تصورات کی حد بندی صاف نہیں ہوتی ہے۔
- مہارت مشکل کاموں کو آسانی کے ساتھ ہموار طریقے سے کرنے کی قابلیت ہے۔ وہ بار بار کرنے اور مشق کے ذریعہ سیکھی جاتی ہے۔ مہارتی کارکردگی مہیج۔ جوابی عمل کی ایک بڑے جوابی عمل کے کڑی کی تنظیم ہوتی ہے۔ یہ وقوفی، ایتنا فی اور خود اختیاری مرحلوں سے ہو کر گذرتی ہے۔
 - بعد کی آموزش پر پہلی آموزش کے اثر کو انتقال آموزش کہتے ہیں۔ یہ عام (مشلاً تیاری) یا مخصوص ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں آموزشی کاموں کے مہیج۔ جوابی عمل کے ایتنا فی کی مماثلت پر مختص ہوتی ہے۔
 - آموزش کو آسان بنانے والے عوامل کے اندر جاندار کا محرك اور اس کی تیاری شامل ہیں۔
 - آموزشی اسٹائل اس طریقہ کی نشاندہی کرتی ہے جس میں سیکھنے والا فی اور مشکل معلومات پر دھیان جماعت ہے، اس کی عمل کاری کرتا ہے اور انہیں قائم رکھتا ہے۔
 - آموزشی معذوری (یعنی پڑھنے لکھنے کی معذوری) لوگوں میں آموزش کی حد بندی کر دیتی ہے۔ آموزشی معذوری کے شکار بچے بیش فعال ہوتے ہیں، ان میں وقت کے احساس کی کمی اور آنکھ اور ہاتھ کے مابین ربط کی کمی ہوتی ہے۔
 - آموزش کے اصولوں کا اطلاق تنظیموں، مطابقتی نقوص کے عمل کے علاج، بچوں کی پورش اور اسکولی آموزش میں کیا جاتا ہے۔

نظر ثانی کے لئے سوالات

1. آموزش کیا ہے؟ اس کی کون سی ممتاز خصوصیات ہیں؟
2. کلاسیکی آموزش ایتنا فی کے ذریعہ آموزش کو اس طرح بتاتی ہے؟
3. فعال الترام کی تعریف کیجئے۔ فعال الترام کی رفتار پر اثر ڈالنے والے عوامل کا تجزیہ کیجئے۔
4. بڑھتے ہوئے بچہ کے لئے ایک اچھا ماذل (قابل تقلید انسان یا چیز) ضروری ہے۔ اس آموزش کا تجزیہ کیجئے جو اس بات کی تائید کرتی ہے۔
5. لفظی آموزش کے مطالعہ کے طریقہ ہائے کارکی وضاحت کیجئے۔
6. مہارت کیا ہے؟ وہ کون سے مرحلیں ہیں جن سے گذر کر مہارت کی آموزش پروان چڑھتی ہے؟
7. تعمیم اور تفریق کے مابین آپ پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟

8. انتقال آموزش کس طرح سے رونما ہوتا ہے؟
9. محرک آموزش کی شرط اول کیوں ہے؟
10. آموزش کے لئے تیاری کا کیا مطلب ہے؟
11. وقni آموزش کی مختلف اقسام کی وضاحت کیجئے۔
12. آموزشی معدودی والے بچہ کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟

پروجیکٹ کی تجاویز

1. آپ کے والدین آپ کے اُس طرح سے برداشت کرنے پر جسے وہ اچھا سمجھتے ہیں آپ کو کیسے تقویت دیتے ہیں؟ پانچ مختلف مثالوں کا انتخاب کیجئے۔ ان کا مقابلہ اس تقویت سے کیجئے جس کا استعمال اساتذہ کلاس روم میں کرتے ہیں اور ان کا تعلق کلاس روم میں پڑھائے گئے تصورات سے قائم کیجئے۔
2. اگر آپ کی چھوٹی بہن یا بھائی کسی ان چاہے ناقابل قبول کردار کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے اس کردار سے چھکارا دلانے کے لئے آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ اس باب میں مطالعہ کئے گئے آموزش کے اصولوں کا استعمال کیجئے۔